

زندگی کو دلکش اور ہر دلعزیز بنائیے

# کلبانی کالر

[www.iqbalkalmati.blogspot.com](http://www.iqbalkalmati.blogspot.com)

تبلیغی  
کلبانی

زندگی کو لکش اور ہر لعزیز بنائیے

# کامیابی کاراژ

مصنف: ڈیل کارنیکی

مترجم: ایس ناز

شیخ پک ایچنسی نوید اسکوائر کراچی  
نوید اسکوائر اردو بازار

## فہرست

صفحہ نمبر	عنوان
5	کامیابی کاراز
	آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ا
20	کامیابی حاصل کر سکتے ہیں
22	غربت دور
23	رجائیت پسندی
24	مسائل پر غور و فکر
25	کامیابی کی طرف ایک قدم
26	احساس کتری
28	اعصابی تناؤ
30	بینادی سوچ
32	ماضی کا پوسٹ مارٹم
33	زادو یہ نظر

ISBN 969-8387-32-3

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

نام کتاب \_\_\_\_\_ کامیابی کاراز  
 مترجم \_\_\_\_\_ الیس ناز  
 ناشر \_\_\_\_\_ شمع بک ایجنسی  
 تعداد \_\_\_\_\_ 1000/  
 قیمت \_\_\_\_\_ 25/- روپے

### کامیابی کاراز

۳۰ سال قبل مجھ پر ایک ایسا راز افشا ہوا جس نے میری زندگی بدل دی۔ آج میں آپ کو بھی اپنا ہم راز بتانا ہوں۔ یہ کوئی لمبی چوری یا تنبیہ بلکہ صرف چار الفاظ پر مشتمل ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں: ”آپ کی حدود مصنوعی ہیں!“ فرض کیجیے میں آپ کے گھر ایک تخت لے کر پہنچتا ہوں یعنی ۲۱ فٹ لہا ۱-۱/۲ فٹ۔

افٹ چورا اور آدھافٹ موتا ہے۔ میں اس تختے کو آپ کے گھر کے باہر بچا دتا ہوں اور آپ کو ایک سو پونٹ کی پیٹکش کرتا ہوں۔ کام صرف یہ ہے کہ تختے کے ایک سرے سے دوسرا سرے تک متوازن قدم رکھتے ہوئے چلے جائیے آپ سو پونٹ کی خاطر یہ کام کرنا پسند کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کام کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اس میں کسی شک کی تجویز نہیں کوئکہ یہ کام ایک تین سالہ بچہ بھی کر سکتا ہے۔ غور کیجیے صرف سات سیکنڈ بعد آپ تمگن رہے ہوں گے اور جی ان ہوں گے کہ خدا نے کس طرح آپ پر مہربانی کی۔

لیکن فرض کیجیے کبی تخت میں دو چٹانوں کے درمیان رکھ دوں۔ یعنی تخت آدمیے میں گھرے کھڑے ایک پل کی ماندر کھا گیا ہو، یعنی ایک دریا بہرہ ہا ہو اور دریا میں خوفناک مگر چھنٹ نظر آرہے ہوں تو کیا آپ اب بھی ایک سو پونٹ کی خاطر اس تختے پر چلتا گوارہ کر لیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں دوسو پونٹ؟ نہیں۔ پانچ سو پونٹ؟ اب شاید آپ میری پیٹکش پر کان وہرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمل پر پھر بھی خود کو آمادہ نہ کر پائیں گے۔ ذرا غور کیجیے فاصلہ نہیں تخت نہیں بدلا اور نہ تختے پر چلے کی صلاحیت آپ میں ختم ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ آپ نے میری پیٹکش مسترد کر دی، آخر کیوں؟

عنوان	صفہ نمبر
کامیابی اور ذاتی پریشانیاں	35
مشکلات بھر پوزنڈگی کی علامات	40
آپ شکل میں بتا دیں؟ مبارک باد!	43
سوچئے! ہر شکل میں	45
آپ کے یقین میں ہی یقین کامیابی ہے	55
اجھے موقع اور ان کا استعمال	58
اپنے دونوں کان ہمیشہ کھل رکھیں	61
وقت ضائع نہ کریں	63
خیر طلب نجی	64
اعتدال پسندی	65
شرمائیے مت	65
با اصول	66
پہلے منصوبہ بندی اور تیاری	67
تحفظ کا چکر	69
جلد بازی	70
آپ غریب کیوں ہیں؟	78

## کامیابی کاراز

6

### شمع بک ایجنسی

شمع بک ایجنسی

شمع بک ایجنسی

اس کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے آپ کے تصورات کی بولگمنی۔ ان دو مواقع پر صرف تصورات میں تغیر پیدا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ تختے پر چلنے کاصور، بہت واضح اور آسان تھا۔ دوسری مرتبہ آپ کے ذہن میں ناکامی کے تصورات آنے لگے اور آپ کی نظرؤں کے سامنے موت کا منظر چھا گیا۔ پہلی پیش میں آپ نے اپنے تصور میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا، لہذا آپ تختے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن دوسری پیش میں آپ نے بہت خطرات محسوس کئے اور یہی وجہ تھی کہ آپ تختے پر نہیں چل سکے اگر آپ دوسری پیش قبول کر کے شگاف کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے تب بھی گوناگون تصورات آپ کو نیچے گرا دیتے۔

مصنوعی خطرات حقیقی صلاحیت پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ صرف کھڈ پر کئے ہوئے تختے کی بات نہیں، زندگی کے جملہ معاملات میں بھی یہی اصول کا فرمائیے۔ غور کیا جائے تو کامیابی صرف خوش قسمی، لگاتا رحمت یا مواقع کے صحیح استعمال ہی پر محض نہیں، حالانکہ یہ عوامل کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کامیابی کا سب سے بڑا عقل ذہن کے رویے سے ہے اور اس رویے کا آغاز اس احساس سے ہوتا ہے کہ ہمارے تصورات کیا ہیں!!

میں کھیل کی دنیا کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ملک و کشور یہ کے زمانے کی بات ہے، طب کی رو سے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص چار منٹ میں ایک میل نہیں دوڑ سکتا۔ جیسے جیسے دلت گزرتا گیا، کھلاڑی اس ہدف کے قریب تر آتے گے لیکن اجتنب سے اچھا کھلاڑی بھی اس حد تک نہ پہنچ سکا، پھر ڈاکٹر روجینسٹر آیا سے یقین تھا کہ یہ کوئی اصول نہیں، صرف انسانی ذہن کا خیال ہے، لہذا اس نے خوب رحمت کی اور بالآخر کامیابی نے اس کے قدم چو ۔

اگرچہ یہ کامیابی بہت ہی غیر معمولی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے میں بے شمار کھلاڑی چار منٹ سے بھی کم وقت میں ایک میل دوڑ نے لگے۔ آج یہ ایک معمولی بات کچھ جان ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ دنیا بھر کا کوئی کھلاڑی چار منٹ میں ایک میل نہیں دوڑ سکتا تھا

## کامیابی کاراز

7

### شمع بک ایجنسی

اور اب وقت یہ ہے کہ ان گنت لوگ ایسا کر سکتے ہیں، حالانکہ لوگوں کے جسم وہی ہیں جو پہلے تھے، وہی دل اور وہی عضلات، فاصلہ بھی وہی اور وقت بھی وہی تربیت کے طریقے تھی وہی اور جو تے بھی وہی۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے چار منٹ میں ایک میل دوڑ نے کے خیال کو بھی معنیکل خیز تصویر کیا جاتا تھا، لیکن جب ڈاکٹر روجینسٹر نے ذہن کی اس مصنوعی حدکو پار کیا تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ اصول طبعی ہیں اور پھر سب نے اپنا ہی رویہ بدلتا۔

نفیات کا کوئی بھی باہر آپ کو بتائے گا کہ ہم ذہن کی قوت کا زیادہ سے زیادہ دل وہ فیصلہ استعمال کرتے ہیں جسی کہ آئن انسان جیسا ذہن سامنہ داداں بھی اپنے ذہن کا دل وہ فیصلہ سے کچھ ہی زیادہ حصہ استعمال کرتا تھا لہذا اگر آپ آئن انسان کی طرح ذہن بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں تب بھی اپنے ذہن پر قدغن لگا رہے ہیں۔ اصولی طور پر آپ آئن انسان سے دس گناہ ہیں، بن سکتے ہیں۔ جس طرح تصورات حدود قائم کرتے ہیں پاکل اسی طرح ہم تصورات ہی کے ذریعے ان حدود کا توڑ بھی کر سکتے ہیں یوں تسلی سامنہ داداں ارشید دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے یور کا اصول دریافت کیا جس کے تحت ایک فرد اپنی قوت سے کہیں زیادہ وزنی شے اٹھا سکتا ہے اس سامنہ دادا کا عزم اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے دعوی کر دیا وہ دنیا کو اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے۔ اس نے کہا۔ ”اگر تم مجھے پاؤں نکلنے کی جگہ دو تو میں کرہ ارض کو اٹھا سکتا ہوں۔“

یقین کیجیے آپ خود اس وقت اسی قسم کے حالات سے دو چار ہیں اگر آپ کھڑے ہوئے کی جگہ حاصل کر لیں تو آپ تجارتی دنیا کو ہلا کر کر کھدیں اور اپنی قوت سے کہیں زیادہ بہتر تنائی کھال لائیں۔

عملی نفیات کا مطالعہ میرا روزمرہ کا دستور ہے مطالعے کے دوران مجھ پر ایک بڑی ہی دلچسپی تھیت کا اکشاف ہوا۔ مجھے معلوم ہوا ہماری تباہ کا سب صلاحیت یا ذہانت کی کی نہیں، بلکہ اس کا براہ اسبب اعتماد کی کی ہوتا ہے اور اعتماد کی کمی مصنوعی خطرات کا اصل سبب ہے۔ جب بہت سارے مصنوعی خطرات جمع ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی خصیت کا فتنی ٹکس نظر آنے لگتا ہے۔

## کامیابی کاراز

9

شمع بک ایجننسی  
بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ غالباً زیادہ تر آپ کے والدین کے بنائے ہوئے، آپ کے رشتہ دار اور دوست بھی کچھ اصول دست کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ اصول آپ سلی و زدن یا کتابوں سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ ویسے اس میں کوئی ہرج نہیں پڑتی لیکن یہ سارے اصول اچھے ہوں۔  
آپ اپنے اصولوں کا جائزہ لیتے رہیں، اگر اصول اچھے ہوں تو انہیں قائم رکھیں اور اچھے نہ ہوں تو ترک کر دیں۔ لیکن یہ طریقہ اس وقت سمجھ ہے جب تک آپ کا فصلہ شعوری ہے۔ اگر کوئی اصول حقیقت سے مخالف ہے تو اس سے آزادی حاصل کر لیں اور اسے قریب بھی نہ آنے دیں۔ فضول اصولوں کا ذرا ناخانا دانالی ہیں!  
آرام کے اپنے اصولوں کا جائزہ لیجئے۔ اطمینان ہوتا ہے کہ بڑی دولت ہے اس میں آپ کی صحت مندی کاراز پہنچا ہے۔ اطمینان آپ میں نہ تو انہی پیدا کرتا ہے یہ آپ کی جھوٹی اعصابی تناوی سے پھاتا ہے۔ آرام کرنا کس قدر آسان ہے اصراف کچھ دیر کے لیے کام نہ کریں، بیٹھ جائیں اور بس! یہ ضروری نہیں کہ دوچار گئنے آپ پر گزاری۔  
لوگ تصورات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ جب آپ تصورات سے کام لیتے ہیں، جب آپ اپنے ذہن میں کوئی تصویر بناتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ احتساب مختلط اختیار کر رہے ہیں لیکن وہ غلط سوچتے ہیں یہ بات حقیقی ہے کہ اگر آپ آنے والے کے بارے میں سوچیں اور کل کی ہولناکیوں کے تصورات ذہن میں لا ایں اور پریشان ہونا شروع کر دیں تو پیچہ اور دل کی بیماری میں جلا ہو جائیں گے۔ آپ کے تصورات آپ کے جسم کو تباہ کر سکتے ہیں اور آپ کو قتل از موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں اور آپ اگر عظیم کامیابیوں کے بارے میں سوچیں بہترین ناولوں اور عمدہ کھلیوں کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ سب کچھ تصورات کے دم سے ہی منظر عام پر آئے۔

اس سے پہلے کہ شعر کہے گئے ہوں، اس سے پہلے کہ تصویر بنائی گئی ہو، اس سے پہلے کہ ناول لکھا گیا ہو گا۔ یہ سب تصورات کی دنیا ہی میں تو تھے! اجنبی گم کے عظیم

## شمع بک ایجننسی

8

کامیابی کاراز  
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حالات و واقعات کے آئینے میں اپنا عکس صاف دیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے دوستوں میں یہ بات اکثر محسوس کی ہو گی کہ ایک شخص اپنی رائے بدلتے کے لیے تیار نہیں ہوتا خواہ وہ رائے صحیح ہو یا غلط۔ کتنی ہی مرتبہ آپ نے اپنے افراد دیکھے ہوں گے جن کا حقیقی روپ ان کے ظاہری روپ سے نہیں زیادہ مختلف ہوتا ہے ایک احق آدمی اپنے آپ کو تلقین تصور کرتا ہے اور ایک عقینہ اکساری سے یوں کام لیتا ہے جیسے اسے صلاحیتوں کا بالکل علم نہیں۔

آپ دوسروں کی شخصیت کا بخوبی اندازہ لگاتے ہیں خواہ آپ کردار کو بیچانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں۔ کون عظمت والا ہے اور کون بد کردار، یہ آپ بہت جلد تباہ کرنے ہیں۔ صرف چند ملاقات میں کافی ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہستی آپ کی زندگی پر سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جو آپ کے لیے اہم ترین ہے جو آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے جس کے ایک ایک راز سے آپ واقف ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتاتے! تھی ہاں، آپ اپنے بارے میں بہت کم جانتے ہیں! بہت ہی کم اور اکثر لوگوں کی ناکامی کا یہی سب سے بڑا سبب ہے۔

ہر فرد اپنی زندگی کچھ اصولوں کے تحت گزارتا ہے۔ یہ اصول جدا جدا ہوتے ہیں اور ان کا انحصار صلاحیت پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے بہت اصول ہوتے ہیں، کچھ کے بہت کم لیکن ہر فرد کے کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں۔

اصولوں کی تین قسمیں یہاں کی گئی ہیں۔ پہلی قسم کے اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سانہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا اصول آپ پر زور دیتا ہے کہ خواہ حالات کیے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ اپنے دوست کو بھی دھوکا نہ دیں۔ دوسرے اصول یہ بتاتے ہیں کہ کون سا کام ہمیں لازماً کرنا ہے اور کون سا چیزوں دینا چاہیں۔ تیسرا قسم کے اصول ذرا دیگر ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ حالات کیسے ہونے چاہیں۔ یہ تمام اصول غیر شعوری طور پر ہوئے کارائے رہتے ہیں۔

کچھ اصول آپے خود ہی بنائیتے ہیں لیکن زیادہ تر اصول دوسرے لوگوں کے

### کامیابی کاراز

11

شعر بک ایجنسی  
کہا جاتا ہے دعا کرنے سے پہلے بھی سوچ لیتا چاہیے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں..... ممکن ہے ہماری دعا کو قبولیت کا شرف ملتے۔

کئی دفعہ بھی میں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ارادوں سے بخوبی واقف ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان ارادوں کو عملی جامد پہنچائیں تو کن حالات سے دوچار ہوتا ہوگا مثلاً کیا ہماری شہرت کے طبلگار ہوتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی شہرت بعض اوقات انسان کے لیے بہل جان بن جاتی ہے۔

جب بھی میں کسی شخص سے مقصد حیات پر گفتگو کرتا ہوں تو مجھے خال آتا ہے کہ شاہزاد میں نے غلطی کی ہے کیونکہ ہر شخص اپنے مقصد حیات سے بخوبی واقف نہیں ہوتا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ جب میں نے اس سلسلے میں گفتگو کی تو ایک عجیب تیجے پر پہنچا آپ کو یعنی نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات پر ابھی تورتی نہیں کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں آپ ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے۔ اپنے کسی دوست سے پوچھتے کہ وہ زندگی میں سب سے زیادہ کس شے کو حاصل کرنے کا طبلگار ہے۔ آپ بیکھیں گے وہ اس سوال کا سمجھیدہ جواب دینے میں کافی وقت صرف کرے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے ذرا سا وقت بھی نہیں نکالتے وہ درپا کے بہاؤ کے ساتھ بتتے چلے جاتے ہیں۔ واقعات طبیور چون یہ ہوتے رہتے ہیں حالات ان میں تغیرات لاتے ہیں لیکن کسی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حالات میں تبدیلیاں لا سکیں یا بہتری کی کوشش کریں بظاہر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن درحقیقت میں سوچے ہوتے ہیں۔

اس بحث میں پڑنے سے میرا مقصد پا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے مقصد زندگی کا تین نہیں کیا تو اب کر لیجئے۔ اسے باقاعدہ کاغذ پر جریر کر لیجئے اور یہ بھی لکھ دیجئے کہ آپ کس اور کیسے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

### شعر بک ایجنسی

10

کامیابی کاراز  
کارنا۔۔۔ نئی ایجادات، نئی معلومات، یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے آنے سے پہلے یقیناً ان کے خالقوں کے ذہن میں تھے۔ تصورات ہماری زندگی کو بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ اگر تصورات ثابت ہوں، تو ثابت نہایت لازماً نکلیں گے، متفہی ہوں تو متفی! اسی طرح کھچا اور کشیدگی، دوستی کی راہ میں دیوار ہے جو لوگ کھنچ کھنچ رہے ہیں وہ پسند نہیں کے جاتے مزید یہ کہ جب ہم کھنچ کھنچ رہے ہیں تو ہم کو کام کرنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے، تو انہی کی کمی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس طرح کامیابی ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔

اگر ہم اپنے اندر سے کشیدگی دور کر دیں گے تو لازماً آرام محسوس کرنے لگیں گے اور ہماراً اعتماد بحال ہو جائے گا۔ اگر ہم اعتماد سے کام لیں گے تو ہم میں الہیت پیدا ہو گی۔ اعتماد اور الہیت ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اگر ہم اعتماد سے کام لیں گے تو لوگ ہم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم زیادہ کام سرانجام دینے کی صلاحیت پایتے ہیں۔ آئیے اب ذرا ذہن کا جائزہ لیں۔ ہمارے دماغ میں دو حصے ہیں۔ ایک شعوری اور دوسرا لاشعوری۔ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو شعوری اور لاشعوری حصوں کے درمیان ایک پر وہ حائل ہو جاتا ہے اور اس طرح ہمارے دماغ کا صرف شعوری حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم سوچاتے ہیں تو ہمارے دماغ کا صرف لاشعوری حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم نیند سے جاگتے ہیں یا رات کو نون کے لیے بستر پر لیتھے ہیں تو ہمارے دماغ کے دونوں حصے بیک وقت کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میل بہت مختصر و دلت کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے شعوری دماغ کی ایک زبان ہوتی ہے جو الفاظ میں سوچتی ہے۔ لیکن لاشعوری دماغ کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ یہ صرف تصویروں میں سوچا کرتا ہے، لہذا اگر آپ اپنے دماغ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صحن اور رات کو اپنے بیدار ذہن میں جو خیالات لا میں، وہ تصویروں کی عکلیں میں لا کیں اپنے مقصد کو تصویروں کی عکلیں میں چشم تصویر میں لیکھیں۔ اس طریقے کو ازما کر دیکھیں یقیناً فائدہ ہو گا!

کامیابی کاراز

13

شمع بک ایجننسی

میں نے جان بوجھ کر ایسی اشیاء کی فہرست بنائی ہے جن میں کوئی ربط نہیں اس فہرست کو پڑھنے کے بعد انگریزیں بند کر لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تو شاید آپ پر چند اشیاء کے نام گزناں لیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ تمام چیزوں کے نام بتا سکیں گے تاہم اگر لوکس (تصوراتی عمارت) کا استعمال کریں تو شاید اتنی مشکل پیش نہ آئے۔

آئیے اب معلوم کریں کہ لوکس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں! آپ کے سامنے ایک عمارت ہے۔ چالی آپ کے پاس ہے۔ آپ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت نائب رائٹر نظر آتا ہے، لیکن فرش پر..... دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک موڑ کارڈ لکھتے ہیں۔ آخر یہ موڑ کار عمارت میں کس طرح داخل ہوئی! مزید آگے بڑھتے ہیں تو بڑی تعداد میں سگار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کس چیز کا کرہ ہے؟ آپ نو بڑا شٹ نہیں کر سکتے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کس قدر خوبصورت الماری ہے! آپ نے زندگی میں اتنی پیاری الماری پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کس قدر رکشا دھے یا!

ذکر پر زور دیں اور تمام اشیاء کو اس عمارت میں دیکھیں۔ مشق جاری رکھیں تو آپ اپنی یادداشت میں جہت انگریز تبدیلی پائیں گے۔

آپ میں آپ کو مشکلات حل کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ طریقہ اس تدر آسان ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کار آمد ہی ہو سکتا ہے۔ تا و تک آپ اس کو خود آزمائیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنی مشکلات کو عالم خواب میں جو کردیں! لیکن ان کا حل خواب میں دیکھیں کیا یہ جادو ہے؟ جی نہیں، یہ جادو نہیں۔ آپ کو یاد ہو گا میں نے دماغ کے دو حصے بتائے تھے۔ ایک حصہ شعوری اور دوسرا لاششوری۔ یہ کار نامہ دماغ کے لاششوری حصے کا ہے جب بھی آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہو، درج ذیل طریقہ پر عمل کریں۔

پہلے جس مشکل کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں تمام معلومات جمع کریں، خواہ ان کا حل سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ اب آپ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک آخری شعوری کوشش کریں۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو بہت خوب،

شمع بک ایجننسی

12

کامیابی کاراز

یہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے یادداشت کا اچھا ہوتا ضروری ہے۔ معلوم کیجیے آپ کی یادداشت کیسی ہے! ممکن ہے کہ آپ اپنے حافظہ کو تکرر سمجھتے ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو حیرت ہو گی وہ یہ کہ خدا کے فعل سے آپ کا حافظہ بہت خوب ہے۔ یقین کیجیے آپ کا حافظہ مثالی ہے مشکل صرف یہ ہے کہ آپ کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔

در اصل حافظہ بھی ایک فن ہے اس فن کا ماہر بجا طور پر امریکہ کا ہیری لورین ہے اس کا کہنا ہے کہ بہت کم لوگوں کا حافظہ خراب ہوتا ہے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کوئی بات یاد کھنکی کو کوشش نہیں کرتے۔ یقین نہیں آرہا؟

غور کیجیے جب آپ کی تعارف کی شخص سے کرایا جا رہا ہو کیا آپ اس کا نام پید رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر آپ عام لوگوں کی طرح ہیں تو شاید آپ اس کا نام صح طریقے سے سنتے بھی نہیں دوبارہ پوچھنے سے بھی شرما تے ہیں۔

کسی بات کو یاد کھنکنے کا اصول بہت پر اتا ہے اتنا پر انا کو قدیم یونانی بھی اس سے تجویز و اقتضائے اس اصول کو لوکس کہتے ہیں۔ لوکس کا مطلب ہے محل و قوع اور علم حافظہ میں لوکس وہ جگہ کہلاتی ہے جہاں ہم چیزیں رکھتے ہیں یہ جگہ حقیقی نہیں مغض افسوس کی تحریر کرنی ہوئی ہے۔

مثال کے طور پر آپ مندرجہ ذیل اشیاء کو یاد کرنا چاہتے ہوں تو اسی ترتیب سے فہرست پڑھئے اور بتائیے کہ کیا آپ ان کے نام یاد کر سکتے ہیں!

- (1) (چالی) (2) نائب رائٹر (3) موڑ کار (4) سگار (5) الماری (6) لفت
- (7) بجلی کا چولہا (8) نوپی (9) خطرناک بجو (10) بید کا درخت (11) مصری مومیا (12) ہوائی جہاز کا ماؤل (13) پائب ریک (14)
- گردکش (15) خلائی جہاز (16) چنی والا قبر (17) خاتون کا شام کا لباس (18) سائل سمندر (19) سونالی روا (20) سکرا ہوا سر۔

کامیابی کاراز

15

شمع بک ایجنسی

گئی تھی! مجھے میں آپ کو اس انمول عرضی کے بارے میں تفصیلات بتا تاہوں!

یہ اس وقت کی بات ہے جب اس شخص نے اشتہارات کی اشاعت کرنے والے ایک ادارے کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ وہ نوجوان تھا اور اسے کوئی تحریر نہیں تھا اشاعت کے کام کے لیے بہت صلاحیت درکار ہوتی ہے اور اشتہارات کی ایجنسیاں تو بہت ہی محظا رہتی ہیں، کسی ایسے شخص کو لینے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوتیں جو تحریر بے سے محروم ہو۔ لہذا آپ بھی سکتے ہیں کہ میرے دوست کے حالات قطعی ساز گار نہیں تھے اگر وہ رسمی درخواست لکھتا، خوبصورت جملوں سے آراست اور اچھے طریقے تاپ کے ہوتے تو یقیناً عدہ الفاظ سے جا ہوا اور بہت عمدہ طریقے سے تاپ کیا ہوا رسمی خط اسے بھی ملتا جس میں ملازمت دینے سے مذکور چاہی جاتی۔

لیکن اس نے رسمی نہیں لکھی بلکہ وقت کا انتظار کرنے لگا اور اس دوران میں اس نے کالی رائٹنگ کا کورس مکمل کر لیا۔ اس کورس کے آخر میں کالی رائٹنگ کا ایک مقابلہ ہوا۔ میرے دوست نے بھی مقابلے میں حصہ لیا اور اول آیا مقامی اخبار نے اس خبر کو شائع کیا جس میں اس کا نام اور پہلے درج تھا اور یہ کہ اس نے کالی رائٹنگ کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اس کے بعد میرے دوست نے اس اخبار سے وہ نکلا علیحدہ کیا۔ جس پر اس کی کامیابی کی خوش شائع ہوئی تھی۔ ن پر یہ چار الفاظ تھے۔

”یہ بندوق کرائے کے لیے ہے۔“

اس عجیب و غریب عرضی سے ابھی اس قدر مرعوب کیوں ہوئی؟ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ میرے دوست نے اپنی صلاحیت جنمیں نہیں لکھی، دکھانی تھی۔ کہنے اور کرنے میں بہت زیادہ فرق تھا ہے، چنانچہ اس نے اپنی تحقیقی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا اگر آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو کبھی لیں ملازمت پکی ہے۔ کوئی اسامی خالی ہوتا اس کا علم آپ کو کیسے ہو؟ اس کے تین طریقے ہیں۔

(۱) اس ادارے سے براہ راست رابطہ قائم کرنے سے۔

(۲) دفتر روزگار سے۔

شمع بک ایجنسی

نہیں ہوتے تو گھبرا میں نہیں۔

پھر جب رات کو سونے جائیں تو ایک قلم اور نوٹ بک اپنے پاس رکھ لیں۔ سونے سے ذرا پہلے اپنی مشکل کا حمل جائزہ لیں اور وہ باشیں لکھیں جو مشکل دور ہوئے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ آخر میں تصور میں صح کو دیکھیں اور یہ خیال بھی کریں کہ آپ کا مشکل ہو گیا ہے۔

جب آپ میں سے بیدار ہوں گے تو امید ہے جل آپ کے پاس ہو گا۔ اسے اپنی نوٹ بک میں درج کر لیں۔ اگر خدا نخواست کوئی حل نہ ملتے تو بھی مالیں نہ ہوں۔ دوسری رات اسی طریقے پر عمل کریں۔ اگر پھر بھی حل نہ ملتے تو ایک بار اور اس طریقے کو پاتا میں بھض و دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حل جلدی نہیں ملتا۔ میں ایک مدت سے اس طریقے پر عمل کر رہا ہوں اور بھی ہمیشہ ایک ہفتے کے اندر اندر حل مل جاتا ہے۔

جب کوئی شخص ملازمت حاصل کرتا چاہتا ہے اور ہر مرتبہ اسے محروم کر دیا جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر مالیوی قبضہ کر لیتی ہے، وہ اپنی درخواست لکھنے میں زیادہ وقت صرف کرنے لگتا ہے۔ اور اپنے بارے میں زیادہ تفصیلات لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تصور یہ ہوتا ہے کہ خاطب کو زیادہ سے زیادہ مرعوب کر کے لیکن پھر بھی اسے انڑو یو کے لیے نہیں بلا جایا جاتا۔

خدان کر کے آپ بھی اس قسم کے حالات سے دوچار ہوں تو میرے پاس آپ کے لیے ایک خوبخبری ہے۔ انڈرو یو حاصل کرتا کچھ بھی مشکل نہیں اگر آپ کو طریقہ معلوم ہو۔ اس مقصود کے لیے لے جو خطوط لکھنے کی ضرورت نہیں۔ غیر ضروری عاجزی کی بھی ضرورت نہیں۔ درخواست لکھنے پر ہرگز زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کی ابتدائی درخواست ہی بہت موثر ہوگی۔

جس شخص سے میں نے عرضی لکھنا سیکھا اس نے کامیابی کے ساتھ پہلے ہی انڈرو یو میں ملازمت حاصل کر لی تھی۔ اس کی عرضی کیا تھی صرف چار الفاظ اور ان چار الفاظ کو بھی اس نے صحیح سے ناٹپ نہیں کیا تھا یہ شکستی تحریر اخبار کے ایک مکلا پر لکھی

جہاں فون کا استعمال بہت زیادہ ہو۔ آپ براہ راست فون کر کے وہی کچھ کریں جو اس لڑکی نے کیا تھا۔ جب آپ کے پاس مطلوبہ صلاحیت موجود ہو تو فون سے ملازمت حاصل کرنے کے طریقہ کارکو خصیر کر دیتا ہے۔ ہدایات کو نظر انداز کرنے سے جس لڑکی کے پیدا ہوئے کاندیشہ ہوتا ہے وہ آپ کی قابلیت کے سب روشنائیں ہوگی۔

جہاں آپ کو اعتاد ہو کہ آپ اپنے مخاطب کو فون پر قالیں کر لیں گے۔ جہاں وقت کی کمی کے بیٹب درخواست ہیچیاں ممکن معلوم نہ ہو، اس صورت میں آپ سب سے پہلے براہ راست گفتگو کرنے کی مددوت طلب کر لیں اور ایسا کرنے کا سبب ہتا دیں۔ یعنیں کریں زیادہ تر افراد آپ کی مددوت قبول کر لیں گے۔

براہ راست گفتگو کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جنم غیر سے خود کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ نفیتی ہے اور وہ یہ کہ جس سے آپ لٹے ہوں، براہ راست ”نہیں“ کہنا اس کے لیے کس قدر مشکل ہوتا ہے جبکہ خط میں یہ پاسانی لکھا جاتا ہے ایک بات واضح رہے کہ جب آپ فون کرتے ہیں تو ملازمت کی درخواست نہ کبھی بلکہ اتردی یوکے لیے وقت مانگتے۔

اگر کسی سب سے عرضی لکھنا ہی پڑے تو وہ اس قسم کی ہوئی چاہیے۔

”آپ کے اشتہار نے مجھے بہت متاثر کیا، کوئکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وضاحت کا ہجوم دیں کیا یہ مناسب نہیں رہے گا کہ میں آپ کے سکریٹری کو فون کر کے ملازمت کی تاریخ لے کر لوں؟ آپ کا مقصد؟“

درخواست لکھنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں۔  
۱۔ عرضی مختصر ہو۔

۲۔ اٹرڈیوکی درخواست کریں، ملازمت کی نہیں۔

۳۔ اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ کو اٹرڈیوکا موقع کیوں دیا جائے، نہ کہ ملازمت کیوں دی جائے۔

پہلا طریقہ سب سے بہتر ہے آپ جس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں جو پہلے سے کام کر رہے ہوں اور انہیں صاف لفظوں میں بتا دیں کہ ملازمت کی تلاش میں ہیں۔ شرمنے کی ضرورت نہیں، دفتر روزگار اچھی جگہ ہے لیکن اگر مجھے ملازمت کی ضرورت ہوتی تو میں صرف انجامی بجوری کے عالم میں اس ادارے سے رجوع کرتا، ملازمت کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات تم تک اخبارات کے ذریعے پہنچتی ہیں۔

اشہارات کے آخر میں عام طور پر ہدایت دی جاتی ہے کہ درخواست میں کیا کچھ درج کیا جائے۔ کچھ ادارے فون کرنے کی ہدایت کرتے ہیں لیکن یہ ادارے قابلِعتماد نہیں ہوتے یہاں تجوہ کم ملتی ہے اور ملازمت بھی غیر محتوق ہوتی ہے۔

سب سے چیزیں غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اشتہار کی ہدایات کو آخري اصولوں کا درج دے دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا ایک رفیق کارے اس کی فرم کے دفتر استقلالیہ میں جو خاتون کام کرتی ہے اس نے اشتہار کی ہدایت کو لکھ رنگ انداز کر کے یہ ملازمت حاصل کی تھی۔

اشہار میں تحریری درخواست ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ مکمل تفصیلات، عمر، تعلیم، تجربہ وغیرہ درج کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے میرے ساتھی کو براہ راست ٹیلی فون کیا اور اسے بتایا کہ چونکہ اسے فرد کی تلاش ہے جسے عام طور پر ٹیلی فون سے سابقہ بڑے گاؤں کیوں نہ ہو فون ہی پر اس کی آواز سن لے اور اس کے فون کرنے کا طریقہ جانچ لے۔

میرا دوست اس کی ذہانت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے ملازمت دے دی۔

بعد میں اس نے بتایا کہ مجھے اس فیصلے پر کبھی پیشان نہیں ہوتا پڑا۔

کن حالات میں ہمیں اشتہار کی ہدایات کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ یہ بھی ایک توجہ طلب پہلو ہے۔ اس مسئلے میں یہ چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیں؟

### کامیابی کاراز

19

### شمع بک ایجنسی

طرح کامیابی کے امکانات روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ با اثر افادہ ہیئت مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے وہ نزی سے کام لیتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے چہرے سے اطمینان پختا ہے۔ ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے اور وہ بھی بھی تھکے تھکے نظر نہیں آتے۔ ہر معاملے میں وہ ذہنی عقل ثابت ہوتے ہیں اور ان کا ہر فصل آزادا ہوتا ہے۔ وہ کبھی دوسرا کے انداز سے مرعوب نہیں ہوتے بلکہ اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہیں۔ آپ جب نئے لوگوں سے میں تو ان کی حیثیت اور نعمیات کا خاص خیال رکھیں۔ لوگ عام طور پر بخوبی نظر اور سوت ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ خود بھی آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ جو رائے قائم کر لیں اسے مشکل ہی سے بدلتے ہیں۔

☆☆.....☆☆.....☆☆

ربرٹ آرڈری نے بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ”ٹریوریل اپسیریو“۔ اس کتاب میں جانوروں کے طرزِ عمل کا سائنسی طریقے سے جائزہ لیا گیا ہے جدید ماہر موالید کے مطابق جانوروں کی نسلوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ علاقائی اور غیر علاقائی۔ علاقائی نسل کے جانورا چے آپ کو کسی خاص علاقے سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ مثلاً بعض جانور جنکل کے ایک خاص حصے سے باہر نہیں نکلتے اس علاقے کی بہت واضح حدود ہوتی ہیں اور ہر جانور ان حدود کو جلی طور پر پیچاں لیتا ہے۔ یہ جانور ان حدود کے اندر ہی خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ کسی وجہ سے باہر نکلا پڑ جائے تو وہ بہت خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان با توں کا شخصی کامیابی سے کیا تعلق؟ کیا انسان کے کردار پر کبھی علاقے کا اثر ہوتا ہے؟

اس بارے میں علمائے نفیلیت مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن عام رائے یہی ہے کہ انسان بھی علاقائی عوامل سے وابستہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی کھلی اگر اپنے

### شمع بک ایجنسی

18

### کامیابی کاراز

۳۔ صرف اسی باش لکھیں جن سے نفیانی طور پر اتفاق کرنا پڑے۔ ۴۔ درخواست صاف سترے کا تقدیر پر اچھے طریقے سے ٹاپ کریں۔ ۵۔ درخواست میں جس دن کا ذکر کیا گیا ہو اس دن یکرٹی کوفون کریں۔ اگر آپ کو کسی فرم میں ملازمت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ ترقی کاراز کیا ہے؟ یہ بھی خاصے سوال ہیں۔ اس طبقے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ادارے کے اپنے اصول و ضوابط اور کارکنوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ ہر ادارہ اپنی پسند کے لوگ منتخب کرتا ہے اور انہی لوگوں کو ترقی ملتی ہے جو مخصوص انداز میں کام کرتے ہیں۔ بعض ادارے اپنا لاکچر عمل محیری شکل میں رکھتے ہیں۔ مثلى آنے والوں کو یہ کہا جو دنیا جاتا ہے۔ جس فرم میں آپ کام کرتے ہیں اگر وہاں بھی ایسا معاواد موجود ہو تو اسے بغور پڑھیں۔ اس لئے نہیں کہ آپ غلاموں کی طرح اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں بلکہ اس کو اپنی قوت کے سچے استعمال کرنے کا ایک ضابط بھیں۔

تجاری اداروں میں بس کا بھی بہت دخل ہوتا ہے۔ صاف ستر الیس کے پسند نہیں ہوتا؟ اگر بس خوبصورت اور معیاری ہو تو آپ کی شخصیت دلکش اور جاذب نظر بن جاتی ہے، اب تھی درزی سے پر اس لوگا یقیناً ہمگا ہوتا ہے لیکن آپ کو روز رو زکی بھجن سے نجات مل جاتی ہے۔

در اصل ہمارے جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے ہمارے بیٹھنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، یہ کچھ ہماری شخصیت کی ترجیحی کرتا ہے، بہ الفاظ دیگر ہمارا جسم ہمارے مزاج کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم جب ابھی مودہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے سے اطمینان پختا ہے غصے میں ہوں تو وہشت چہرے سے عیال ہوتی ہے اور یہ سب کچھ انسانوں تک ہی محدود نہیں، جانور بھی مختلف موقعوں پر جسم کے ذریعے اپنی ہوتی کیفیت بتاتے ہیں۔ دو بلیوں کو لڑتے وقت دیکھئے اپنے سے جب غضب میں ہوتے ہیں تو ان کے پر کس طرح پھیل جاتے ہیں۔

میرا خلصانہ مذورہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ زم گول اور زم روی سے کام لیں۔ اس

شمع بک ایجنسی

ملک میں کھیلا جائے تو جنتے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہی کھلی بروں ملک کھیلا جائے تو امکانات آم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً بھی کہ کھلاڑی اپنے ملک میں خود کو زیادہ محفوظ اور دوسرا ملک میں جنپی خیال کرتے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں کی طرح انسان بھی علاقائی ہوتے ہیں۔  
یہ بات اور آگے بڑھتی ہے تو علاقے کو دھوکوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ شخصی علاقہ اور رہائشی علاقہ۔

ہمارے وجود کے ارد گرد کا علاقہ شخصی علاقہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس علاقے میں داخل ہو۔ تخلیقی نسبیات کے بعض ماہرین نے اس ضمن میں بہت سے تحریکات کے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ شخصی علاقے کے سلسلے میں بہت حساس واقع ہوتے ہیں۔ اگر بس میں بھوم ہو تو آپ نے بھی محسوں کیا ہو گا کہ طبیعت گھبراہٹ محسوں کرتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر اجنبی نظریں ڈالتے ہیں۔ جیسے شخصی حدود میں مداخلت پر معدودت چاہ رہے ہوں۔ رہائشی علاقہ وہ ہے جہاں ہمیں آرام ملتا ہے۔ مثلاً ہمارا گھر۔ جب آپ کسی کاروباری ادارے کی حدود میں ہوں تو یہ علاقہ آپ کا دفتر ہے۔ شخصی اور رہائشی دونوں علاقوں کے کچھ نسبیاتی اصول ہیں اور ان اصولوں کا علم ہمیں دوسروں سے برتر کر دیتا ہے اور کامیابی ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔

### آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں

#### کامیابی حاصل کر سکتے ہیں

”یتحودن، میں تم سے عاجز آچکا ہوں۔ اتنا عرصہ ہو گی تمہیں، موسیقی کی ابجد میں نہیں آئی مجھے لیتیں ہے تم کچھ بھی نہ سمجھ سکو گے۔ قطعی ناکارہ اور کندہ سن ہو۔“

شمع بک ایجنسی

موسیقی کے استاد نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔

یتحودن خاموش رہا۔ وہ لمبی مدت طعن و شنج کے تیر سہتارہا۔ اس کا بچپن اور جوانی کا خاص احساس نہ کامی اور رگنا می کی دلدل میں گزرا۔ اور پھر ایک روز اس کا نام چاند کی طرح روشن ہو گیا اور اس نے موسیقار کی حیثیت سے دنیا کو عظیم سرمایہ عطا کیا۔ نعمتوں کے زیر و بم سمجھنے والے آج بھی یتحودن سے والہا مجتہ کرتے ہیں، وہ مرچکا ہے لیکن اس کی شہرت کو بقاۓ دوام ملی ہے۔

تاریخ میں ایسے واقعات کثرت سے ملے ہیں کہ جن لوگوں نے بے مثل کامیابیاں حاصل کیں اور مرنے کے بعد اپنے پیچھے کارہائے نمایاں کے لاقانی نقش چھوڑ گئے، ان میں سے اکثر کندہ ہوں اور غیری سمجھے جاتے تھے۔ نیوٹن سے کون واقف نہیں، وہ اپنی صدی کا حیرت انگیز بجوبه تھا مگر اس کی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح گزر رہی ہے کہ وہ کوئی برا کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ چہ مل طالب علمی کے زمانے میں ایک کھانڈر الٹا کا تھا۔ وہ پھر بچپن پر میٹھتا تھا بلکہ اکثر کھڑا رہتا کیونکہ اسے کوئی بھی سبق یادنہ ہوتا تھا مگر آپ جانتے ہیں چہ مل نے انگلستان کی تاریخ میں کیا کردار ادا کیا اور کچھ تو یہ کے ایک زمانے میں پوری عالمی سیاست اس کے گرد گھومتی تھی۔

ڈیک آف لٹلن فوچی مہارت میں ان بلند یوں تک پہنچا جس تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں کہ بار بار کی ناکامیوں سے نجک آ کر اس نے اس کو خیر پیدا کر دیا تھا۔ اس کا وہ کی تحریک جو آج دنیا بھر میں کام کر رہی ہے اور ہر تعلیم یافتہ شخص اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اسی تحریک کے باقی لارڈ بیڈن پاؤل کو نالائقی کی وجہ سے آکسفوڈ میں داخل نہیں ملا تھا۔

یہ واقعات اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کوئی خاص عمر نہیں۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چنے چلنے پات۔ یہ ضرب المثل بھی ایک حد تک صحیح ہے۔ مگر وہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرتی۔ ہمارے اندر پچھ کرنے کی امنگ اُختی ہے، تو یہ کہہ کر بیٹھ رہتے ہیں کہ پچھ کرنے کا زمانہ

بیت گیا۔ یہ احساس سراسر کم ہوتی یا کم علمی سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہر لمحے میں ایک عظیم کارنا نہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ عظیم لوگوں کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا عمل بہت بعد میں شروع ہوا اور جس قدر دیر سے شروع ہوا، اسی تو راس میں تیزی پہنچتی کامیابی کے پھول عموماً زندگی کی ابتدائی بہاروں میں نہیں کھلتے۔

### غربت دور

آپ ایک دوست لئے گھر ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ طویل سفر کے بعد آپ اس کے گھر پہنچتے ہیں لیکن گھر خالی پاتے ہیں۔ سفر کی تکان ہمکے سبب آپ گھر کے اندر داخل ہونے کے آپلا و مند ہیں۔ اسکا حالت میں ایک گھر کی کھلی پاتے ہیں اور اس سے اندر داخل ہو جاتے ہیں تاکہ کچھ دیر آرام کے ساتھ بیٹھے جائیں۔ آپ و ملم ہے کہ اگر آپ کا دوست گھر پر موجود ہوتا تو لازماً اندر بلاتا۔ آپ کوئی بھی معلوم ہے کہ جب وہ اپس آئے گا تو آپ کو اندر پا کر ناراض نہیں ہو گا لیکن آپ ویسا طمیانہ ہرگز محوس نہیں کر سکتے جیسا دوست کی مہوجوگی میں دروازے سے داخل ہو کر محوس کرتے! اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ضابطے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔

آپ جب تک اپنے دوست کے انتظار میں وہاں رہیں گے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا رہے گا، آپ کو احساس جرم ہو گا، آپ مضطرب ہو جائیں گے۔ شاید بے چینی سے کمرے میں چکر کائے لگیں۔ یقیناً آپ تکاوث دور کرنے اور آرام حاصل کرنے کی خاطر کسی کے رہائشی علاقے میں داخل ہوئے تھے لیکن خلاف ورزی کے باعث پر مقصد حاصل نہیں ہوا۔

تجاری طبقے میں رہنے کا علاوہ بہت اہمیت رکھتا ہے بشرطیکا آپ اس کا صحیح استعمال کریں۔ ایسا کرنے سے یقیناً بہت سانقیاتی فائدہ پہنچے گا، آپ آرام اور سکون محوس کریں گے۔

جب کسی افسر کو اپنے ماتحت سے کام لینا ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اپنے ماتحت کے

کمرے میں نہیں جاتا بلکہ اسے اپنے کمرے میں بلاتا ہے لیکن جب آپ کو اپنے کی ساتھ سے کام لینا ہوتا ہے آپ اس کے کمرے میں جاتا زیادہ پسند کریں۔ اس طرح اسے کسی قدر اہمیت ملتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ، اپنائیت اور طمیانہ کے ساتھ آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعادن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آپ احساس کتری کا بیکار ہیں؟ احساس کتری کی وجہ سے لوگ بہت سی باتیں راز میں رکھا کرتے ہیں ”راز“ چھپانے کی چیزیں زیادہ کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی باتیں اسکا رکھا رہتا ہے، لیکن اگر آپ ہمت کر کے ایک مرتبہ راز کی بات کہہ دیں تو آپ کا خوف جاتا رہتا ہے، آپ کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی کسی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو کوئی بات چھپانے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔

ایک پرانی کہاودت ہے جب آپ اور جانے لگیں تو راستے کے لوگوں سے اچھے طریقے سے ملیں اس لیے کہ جب آپ پنجا میں گئے تو انہیں لوگوں سے واسطہ پڑے گا! یہ جملہ عام طور پر فلسفی دنیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تجارتی زندگی میں بھی اسی اصول پر عمل کرنا چاہیے، کامیابی کا خواہ شد وانا آدمی اپنے ماتھوں سے بہت اچھے اور زرم طریقے سے ملتا ہے۔ جو لاکر وہ جانتا ہے کہ اس نے اور پر جاتا ہے اور کبھی یہ بھی نہیں آتا۔

### رجائیت پسندی

زندگی کے بارے میں اگر آپ کا نقطہ نظر ثابت ہو اور آپ ہر چیز کا درشن پہلو دیکھنے کے عادی ہوں تو یہ شمار تکالیف کا از خود خاتم ہو سکتا ہے۔ تہائی کے چند لمحے تکالیف صدق دل سے اپنے پیشیدہ خیالات و احساسات کا ٹھیکری کرنے کی کوشش دیکھیجے۔ آپ قبولی ہیں؟ لا جائیت پسند ہیں؟ یا انکی پیش کاشکار ہیں؟ ان خیالات کا جواب حاصل کرنا نہایت اہم ہے۔ اس لیے کہ انسان کا طرز فکر اور رویہ اس کی زندگی کے بڑے اور اہم واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ ماہرین نفیات کا کہنا ہے کہ انسان اگر چاہئے

شمع بک ایجنسی

کامیابی کاراز

25

کے سامنے ترتیب اور کارمانی کے کتنے ہی ان گرفت راستے کھلے ہوئے ہیں۔ زندگی میں کئی ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ مانیجی، بدبدی اور پُرمردگی کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی ذات پر سے ان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خود اعتمادی سے ان کا سامنا کیتے۔ اس امر کی کوئی پروافہ نہ کیجئے کہ اس کوشش میں آپ کے قدم کتنی بار لڑ کھڑاتے ہیں۔ ثابت قدم رہئے اور اپنی ذات پر اعتماد کا نجخواز ایجاد ہے۔ چند بار کے کامیاب تجربوں کے بعد آپ کو زندگی بھر کھیلی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

### کامیابی کی طرف ایک قدم

ذینا کے ایک مشہور ماہر طبیعت کا کہنا ہے انسان کے جسم میں اس قدر جو ہری تو اتنا ہی ہے کہ اس سے نجیارک جیسا ایک براہمیر آسانی سے تباہ کیا جاسکتا ہے۔ اس قول پر سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھنے کے بجائے رک جائیے اور اس کا حقیقی مقہوم ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے۔ ماہر طبیعت نے بڑے پتے کی بات کی ہے، ذرا غور کیجئے، اگر انسان میں اتنی قوت ہے کہ اس سے نجیارک جیسے بڑے شہر کو تباہ و بر باد کر کے ٹکنڈر بیالا جاسکتا ہے تو پھر اسے مایوس یا احساس کتری کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حیرت انگیز قوت سے کام لے کر وہ یقیناً اپنی کا یا پلٹ سکتا ہے۔

فیٹا غورث اکثر کہا کرتا، اپنے آپ سے آگاہی حاصل کرو، قدرت نے انسان کو جو ہری تو اتنا ہی جیسی بے شمار قوتیں اور صلاحیتیں پر دکر کھلی ہیں۔ زندگی میں کامیابی اور خوشی کے حصوں کے لیے ان پوشیدہ قوتوں کا سراغ لگانا اور اپنی ہنری و جسمانی صلاحیتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ علم انسان میں اپنی ذات پر اعتماد پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک بار یہ اعتماد حاصل ہو جائے تو پھر زندگی میں بھی مایوسی اور بدبدی کا شکار نہیں ہو سکتا اور نہ ہی احساس کتری اس پر غالب آسکتی ہے۔

تو صرف اپنے سوچنے کا ڈھنگ بدل کر اپنی ساری زندگی کا ڈھنگ بدل سکتا ہے اگر کوئی سے ہے، تو بات دونوں کی ٹھیک ہو گی، لیکن ان دونوں کے سوچنے کے انداز میں جو نمایاں فرق ہے وہ ان فقرتوں سے بخوبی واصل ہو جاتا ہے۔ اول الذکر قوتوطیت کا شکار ہے جبکہ دوسرا شخص ہر چیز کا روشن پہلو دیکھنے کا عادی معلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھنے انہیں ذہن جو کچھ کاشت کرتا ہے وہ لازماً پھل لاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ تاریک معاملات کے اندر ہرے پہلو دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ کو زندگی میں مایوسیوں، مارسیوں اور تاکامیوں کے سوا اور کچھ باقتحمیں آئے گا لیکن اگر اسکے بر عکس آپ رجائیت پسند ہیں تو آپ کی زندگی خوشیوں، سرتوں اور کامرانیوں کا مجموعہ ہو گی۔

### مسائل پر غور و فکر

بعض لوگوں کی عادت ہے وہ جن معاملات کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے یا فوری قدم اٹھانے سے قاصر ہوتے ہیں وہ ان معاملات کو التو ایں ڈال دیتے ہیں۔ یہ عادت اچھی نہیں، اپنے مسائل کو فوراً حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو میدان میں لایئے اس طرح حالات کا مقابلہ کر کے آپ تجربے کے ساتھ ساتھ کردار کی چیختی اور اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھ کرے ہیں۔ کل کلاں کو اگر کوئی دوسرا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو اس سے منسلک ہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ موجودہ مسئلہ چاہے کتنا ہی مسئلہ ہو وہ آپ کی صلاحیتوں کی آزانش کی پہلی کڑی ہے، اسے نہ کل پڑائے اور نہ آکھیں جا کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔

آخری بات جو میں آپ سے کہنے والا ہوں یہ ہے کہ اپنے آپ سے ہمدردی، تائف، اور دل ٹککی کے سارے خیالات جیسے جن کرنا اپنی ذات پر اعتماد پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک بار یہ اعتماد حاصل ہو جائے تو پھر زندگی میں بھی مایوسی کے جو آپ کا منہماً مقصود ہے۔ ان کا منہی سے محاسبہ کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ

## احسک مکتری

احسک مکتری در حقیقت غلط طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ اس کی بنیاد اکثر بچپن میں پڑنی ہے، پنج کو بات بات پر ڈالنا جائے اور اس کے ہر کام میں من مخ نکالی جائے تو وہ مایوس اور بدزدیل ہو جاتا ہے اور اس کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور اسی طرح عملی زندگی میں داخل ہونے کے بعد انسان ناموافق حالات میں گھر جائے اور اسے شکست اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہ ہو تو بھی اس کے اندر احسک مکتری پیدا ہو جاتا ہے، زندگی نی الواقع نہایت کٹھن ہے۔ مگر ہم اس حقیقت کو بھی نہیں جھلا سکتے کہ اگر انسان تمام دشواریوں اور رکاوتوں کے باوجود اپنی شکست نہ مانے اور جدوجہد کرتا رہے تو کامیابی بالآخر اس کے قدم چوتھی ہے، عارضی ناکامی اور شکست سے دل برداشت ہو کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوسی اور بدالی حقیقت شکست اور ناکامی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ اس سے دامن بچانا ضروری ہے، اس کی مناسب ترین صورت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ثابت طرز فکر اپنانے کی کوشش کرے۔ اپنی ذات پر اعتماد ہو اور ذہن کو ثابت انداز میں سوچنے کی مناسب تربیت دی جائے تو شکست اور ناکامی کا سورج بھی ابھرنے نہیں پاتا اس کے بر عکس آدمی ہمیشہ فتح کے بارے میں ہوچتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سوچنے والا شخص بالآخر فتح سے ہمکنار بھی ہو جاتا ہے۔

احسک مکتری کی چھاب انسانی کردار پر نہایت گہری ہوتی ہے۔ اور گرد بینے والوں کا یار جائزہ لیجئے ان کی لفظوں، حرکات و مکانات، چلے پھر نے اور ہم ہم کا انداز صاف طور پر ان کی اس کمزوری کی جعلی کھانا نظر آئے گا۔ باتیات پر تکلف کا مظاہرہ، اکڑ کر چلتا، نہایت اونچی آواز میں گفتگو کرنا، بحث میں الجھانا و رجا طلب پر علیست کی رعب بخانے کی کوشش کرنا یہ سب احسک مکتری کی مختلف شکلیں ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اعماری بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہے۔ ان حرکتوں میں انسان کے شعور اور ذہن کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اس سے لاشوری طور پر سرزد ہوتی ہے اور متعدد صرف

یہ ہوتا ہے کہ اپنے کردار کی خامیوں اور کمزوریوں کو چھپایا جائے۔

خود آگاہی، احسک مکتری سے نجات پانے کا، بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نفع بھی اسی ضمن میں نہایت مفید ہے۔ یہ صرف دو چھوٹے قفروں پر مشتمل ہے۔ مگر اپنی تاثیر اور افادت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہ دو فقرے ہیں۔ ”اگر خدا میرے ساتھ ہے تو پھر کون میرے خلاف ہو سکتا ہے۔“ اس فقرے پر اعتماد اور لقین کا مطلب دوسرا متعوں میں خود اپنی ذات اور صلاحیتوں پر اعتماد کا اطمینان ہے۔ ان الفاظ کو اتنی بارہ ہر ایسے کہیں کہ آپ کے لاشوری میں گھر نہیں۔ ایک بار جب آپ کا ذکر ہوا، ان الفاظ کی حقیقت تسلیم کر لے تو پھر آپ محسوں کریں گے کہ آپ کے اندر کس قدر رعزم، حوصلہ اور استغفار پیدا ہو چکا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میرے یا اس ایک دوسرے میں یا اسے اعصابی کمزوری کی شکایت کی اس کی باحوال میں دنیا جہاں کا گھوہ تھا۔ میں نے اندازہ لگایا اسے درحقیقت کوئی تکلیف نہیں، محض وہم میں گرفتار ہے، جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکا تو میں نے کہا! بڑے افسوس کی بات ہے حالات نے آپ سے نہایت برا سلوک کیا آپ ان کے مقابلہ میں ناکام ہو گئے، حالات نے آپ کی بہت توڑ کر رکھ دی، افسوس صد افسوس!! مجھے دلی ہمدردی ہے۔

اس شخص نے سزاها کر جیت سے مجھے دیکھا، انکھیں چکنے لگیں اور کان کی لویں سرخی ہو گئیں..... پھر زیکا یک اس نے جارحانہ انداز اختیار کر لیا اور کاٹ کھانے والے بچھ میں بولا، بکون کہتا ہے، میں ناکام ہو گیا، کس نے میری کر توڑ کر رکھ دی؟ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ باتیں کرتے کرتے وہ کری سے اٹھ کر ہوا، اسے غصے میں دیکھ کر میں نے کہا، بہت خوب ٹھیک ہیں باتیں میں ذہن نشین کرانا چاہتا تھا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، اعصابی کمزوری کی شکایت یوں ہی کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے میرے سامنے یہ باتیں کی ہیں، اسی طرح اگر ہر صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے آپ سے کہا کریں تو دیکھئے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک قدم آئنے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور یہ فکرہ پانچ مرتبہ ہر ایسے۔ ”اگر خدا میرے ساتھ ہے تو پھر

### کامیابی کاراز

29

### شمع بک ایجنسی

لینے کا عادی ہو جائے تو انسان نہ صرف کئی غیر ضروری پریشانیوں اور الجھنوں سے حفاظت رہتا ہے بلکہ ہر کام تجزیٰ اور نہایت عمدگی کے انجام دیتا ہے۔ اعصابی تناوٰ سے نجات پانے کے لیے اطمینان و سکون نہایت ضروری ہے۔ اب کے حصول کی مختلف صورتیں ہیں۔ تاہم کوئی بھی صورت ہو، آدمی کے خیالات اور طرزِ فکر بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اس لیے سب سے پہلے ان پر توجہ دیجئے۔ ثابت طرزِ فکر اپنائیے۔ اور ہمیشہ چیزوں کے روشن پہلوود یکجھے کی عادت ڈالنے اس طرح کئی غیر ضروری پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسروں پر تقید اور نکتہ چینی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ لطف و مہربانی اور شفقت کے ساتھ چیزیں آئیے۔ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ ہر کام میں تعاوُن کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔

نفیاتی، طبی یا روحانی مشوروں اور طریقوں سے قطع نظر میں آپ کو ایک بالکل انوکھا مگر سادہ اور آسان علاج بتاؤں گا۔ یہ نہ صرف میراپنا آزمودہ ہے بلکہ بہت سے اور اخلاقی بھی اس پر عمل کر کے اعصابی تناوٰ سے نجات پا جائے گیں جب آپ کی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو اس سے فوراً ہاتھ اٹھا جائے اور آرام کریں۔ پہنچ کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیجئے۔ سر کری کی پشت سے لگا کر تناکیں پوری طرح آگے کی طرف پھیلائیے اب بازو پہلے اور اٹھائیے اور پھر ڈھیلے ڈھالے قدرتی انداز میں پیچ کر کے گھنٹوں پر رکھ لیجئے۔

قهوڑی دیر کے بعد آپ اعصابی اور جسمانی سکون محسوس کرنے لگیں گے۔ اب ذہن کو پر سکون بنانے کی کوشش کیجئے۔ قدرت نے ہمیں خیل کی صورت میں ایک بیش بہاعظی دیا ہے۔ اس سے مدد لیجئے۔ مثال کے طور پر تصویر کی آنکھ سے دیکھئے، آپ کی مرغزار میں درخت سے نیک لگائے بیٹھئے ہیں۔ چاروں طرف رنگ برلنگے پھول کھلے اپنی بہار دکھار ہے ہیں فضائل کی بھیں۔ بھی خوشبو سے مہک رہی ہے۔ ہر طرف گہرا سکوت طاری ہے۔ جنکلی کیڑے مکوڑوں کی مدھم سی سرسر اہمیت کے سوا اور کوئی آزاد

### کامیابی کاراز

28

### شمع بک ایجنسی

کون میرے خلاف ہو سکتا ہے۔ ”اس نے میری باتوں پر عمل کیا اور اپنے مرض پر قابو پا لیا، آج وہ نہایت خوش و خرم زندگی بس کر رہا ہے۔ کیا آپ کو یقین نہیں آتا؟“ تاہم لگن کو آری کیا، آپ خود اس نئے پر عمل کر کے اس کی صدافت آزمائتے ہیں۔

### اعصابی تناوٰ

اعصابی تناوٰ کی شکایت آج کل بہت عام ہے۔ روزانہ بے شمار افراد سو شر قلب، خون کے دباؤ اور امراض قلب کے ہاتھوں موت کے گھاث اتر جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں سے اکثر اموات کے چیजیں اعصابی تناوٰ کا فرماء ہوتا ہے۔

اعصابی تناوٰ کا بندی دی سبب ہوتی پر اگنڈی اور بدظی ہے۔ پر اگنڈہ ذہن کسی مسئلے کا دوٹوں فیصلہ نہیں کر سکتا بلکہ اس پر ایک سرسری نظر ڈال کر فوراً دوسرے مسئلے یا کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح مسائل حل طلب اور کام ادھورے رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ادھورے کاموں اور مسائل کا ڈھیر لگ جاتا ہے جن سے پہنچا مکن نہیں ہوتا۔ تجھے یہ کہ انسان پہلے ہتنی افرافری اور سر ایسکی کاشکار ہوتا ہے اور پھر اعصابی تناوٰ کا۔

کام کے دوران میں اگر کسی مرحلے پر آپ بے بُی محسوں کرنے لگیں اور ذہن کام کرنے سے جواب دے دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اس سے کسی ترتیب اور سلسلے سے رہے ہیں۔ ایسی حالت میں لازماً یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی الیت نہیں رکھتے۔ یہ سلسلہ اگر زیادہ عمر حصے تک جاری رہے تو اس کا نتیجہ بالآخر اعصابی کمزوری کی صورت میں نکلتا ہے۔

اعصابی تناوٰ میں مبتلا فرد کی زندگی ایک مسلسلہ ہتنی عذاب ہوتی ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے کام میں نظم و ضبط پیدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ جہاں تک ممکن ہو ایک وقت میں صرف ایک کام کرنے کی عادت ڈالیے۔ جب تک کسی ایک مسئلہ کو پہنچا نہیں، دوسرے میں با تھہنڈا لیے۔ ایک بار جب ذہن نظم و ضبط سے کام

### کامیابی کاراز

31

### شمع بک اینجنسی

پر اس ابتدائی سوچ کا نمایاں اور گہر اثر پڑتا ہے۔ مثلاً بعض افراد ڈر کو بنیادی سوچ بننے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ڈر کی ابتدائی اعمام طور پر نہایت معمولی یا توں سے ہوتی ہے۔ انسان بار بار اس عمل سے گزرے تو یہ عادت بن جاتی ہے اور ذہن اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اس کے بعد انسان جب بھی اپنے خاندانی کاروبار، صحت یاد نمایاں کی اور بات کے متعلق سوچتا ہے اس کی ہر سوچ میں ڈر اور خوف کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔

ڈر سے جھک کر اپانے کے لیے کوئی مفید نبیل علاش کیجئے اور وہ اپنی ذات پر اعتماد و یقین کی صورت میں آپ کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھئے ڈر کمی یقین پر غالب نہیں آسکتا۔ یہ نبیل نہایت کامیابی سے ڈر پر قابو پانے اور اسے جڑ سے اکھاڑ چھکنے میں مدد گار ثابت ہوتا ہے۔ یقین اور اعتماد کی جڑیں ذہن میں جیسے جیسے گھبری ہوئی جائیں گی ڈر کے سوتے تختک ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جب کبھی کوئی بات سوچیں گے اس میں یقین اور اعتماد کی جھلک نمایاں ہوگی۔

سوچ کے عمل کو ہمیشہ صحت مند رکھنا ضروری ہے۔ اپنے مستقبل کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ کو جو ساز و سامان درکار ہے وہ سب آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ ذہن کو پر اگندگی اور پر پیشانی سے محفوظ رکھئے۔ اس میں خود بخود تحریری خیالات کی رو دوڑنے لگے گی اور جب کبھی کسی پر پیشانی یا بحث میں دوچار ہوں گے تو ذہن فوراً اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور علاش کر لے گا۔ ابتنے کاروبار یا پیشے میں ترقی کے لیے ہمیشے اور اچھوئے خیالات سوچنے کی کوشش کیجئے۔ اوسط ذہن کا مالک انسان اگرچہ بڑے بڑے انقلابی منصوبے نہیں سوچ سکتا! تاہم یہ حقیقت ہے کہ اس کی مدد وے وہ اپنے میدان میں محدود پیانے پر ترقی کی نئی راہیں ضرور علاش کر سکتا ہے۔ اپنے کام پا کاروبار سے متعلق تمام امور کا بغور اور گہر امطال عکر کے ساری باتیں لا شعور میں جذب کر لیجئے۔ ذہن میں خود بخود نئے اور اچھوئے خیالات پیدا ہونے لگیں گے۔

مشہور اور نامہور مصوروں کی اکثریت اسی طریقے پر عمل پیرا ہتی۔ اسیوں جب

### شمع بک اینجنسی

30

### کامیابی کاراز

سنانی نہیں دیتی۔ نگاہوں کے عین سامنے صاف خلاف پانی کی جھیل ہے۔ دور ایک بلندو بالا پہاڑ کی چوٹی دھوپ میں چمکتی نظر آرہی ہے۔ اسی پر سکون دنیا کے تصور سے نہ صرف آپ کا جسم سکون اور تازگی محسوس کرے گا بلکہ ذہن بھی تہبراؤ اور تازگی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ چند ثانیوں کے اس عمل سے آپ اپنے اندر حرثت انگیز تبدیلی پائیں گے اور ازرس فوتا ہو جو کہ چھوڑے ہوئے کام سے نیچتے ہیں گے۔

مصیبت اور پریشانی کے عالم میں خدائے بزرگ و برتر کی یاد بہت بڑا سہارا ہوتی ہے اس کی لازوال قوت، شفقت، ہم برآنی، دست گیری اور عدل و انصاف پر ایمان رکھئے اور اس کی بے پایاں عنایات کے متعلق سوچنے کی عادت ڈالتے۔ اس سے آپ کو نئی قوت سکون اور اطمینان نصیب ہو گا۔ ابتدائیں یہ کام شاید کسی قدر دشوار محسوس ہو گر گھبرائے نہیں۔ مش جاری رکھئے۔ ذہن رفتہ رفتہ خود بخود اس کا عادی ہو جائے گا۔

### بنیادی سوچ

قدرت نے انسان کو جو مختلف صلاحیتیں عنایت کی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی قوت سوچ ہے۔ زندگی کی اکثر خوشیاں اور مصائب ایک حد تک اسی سوچ کی پیداوار یا مرہوں منت ہوتے ہیں چنانچہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہم کس طرح سوچ یا اپنے ذہن کو مصروف رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے آدمی وہی کچھ ہے جو وہ دکھاتا ہے، لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ آدمی وہی کچھ ہے جو وہ سوچتا ہے تو یہ بات نہیں زیادہ حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

زندگی کو خونگوار اور کامیاب بنانے کے لیے اپنے اندر عملی انداز میں سوچنے کی عادت بیدا کیجئے۔ ایک مشہور روی فلاسفہ اور دانشمند نے کہا تھا: ”ہماری زندگی ہمارے خیالات سے عبارت ہوتی ہے۔“ اسی طرح ایمرسن نے کہا: ”انسان وہی کچھ ہے جو وہ دن بھر سوچتا ہے۔“ یہ حقیقت ہے کہ انسان دن میں بے شمار باتیں سوچتا ہے۔ مگر اس تمام سوچ میں صرف ایک بنیادی سوچ کا فرماء ہوتی ہے۔ انسان کے تمام خیالات

کامیابی کاراز

33

شمع بک ایجننسی بعض افراد  
وہ نئے سے افراد تھے جو خواب میں آ کر اس کام کو مکمل کر دیتے۔ ملش اپنی نظم کے  
مرکزی خیال پر ایک طویل عرصے تک سوچ بجا رکرتا۔ اس دوران میں وہ ایک لفظ بھی  
نہ لکھتا۔ لیکن ذہن برابر اپنے کام میں مصروف رہتا۔ جذبات و احساسات اشعار میں  
ڈھلنے رہتے اور آخر کی رات یہ چشمہ بہہ لٹکتا۔ وہ آدمی رات کے وقت لڑکوں کو نیز  
سے بیدار کرتا اور اشعار قلم بند کروانے پہنچتا۔ اس قسم کی سوچ لاشعوری سوچ کہلاتی  
ہے۔ یہ صرف آرٹ اور ادب میں ہی مفید ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ سائنس کی بہت سی  
ابجھی ہوئی گھیاں اور مجیدہ مسائل بھی اسی طریقے سے سمجھائے جا سکتے ہیں۔

ڈاکٹر سعید بندیش امراض دماغی کا مشہور معانع گزر رہے اس کا مقولہ ہے: "کام کرلو  
کھڑے ہو جاؤ۔" ان چند الفاظ میں نصیحت اور حکمت کا انمول خزانہ پوشیدہ ہے۔ مطلب  
یہے کہ جو مسئلہ یا کام درپیش ہو اس پر اپنی لیاقت اور استعداد کی حد تک خوب اچھی طرح  
خوار فکر کر کے تینچھے خدا کے پر دکردیجی آپ اپنی کی پوری کوشش کر چکے ہیں۔ مزید پریشانی  
اور غور و فکر سے اپنے آپ کو تینچھا ہٹ میں بٹلا کرنے کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔  
ہنری فورڈ 75 سال کا ہاتھ تو کسی نے اس کی اچھی صحت کا راز پوچھا، کہنے لگا:  
تین بائیس ہیں، میں نہ توزیع ادا کھاتا ہوں نہ زیادہ فکر و تردید کرتا ہوں اور جب کسی بات  
پر پورا علم اور تحریر پر صرف کر لیتا ہوں تو مجھے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس کوشش کا جو بھی  
تینچھے لٹکے گا وہ لازماً اچھا اور بہترین ہو گا۔ آپ بھی ان شہری اصولوں کو اپنانے کی  
کوشش کیجئے۔ ماضی کا پوسٹ مارٹم کرنے سے سوائے دکھ اور نریثانی کے اور کچھ ہاتھ  
ہیں۔ اس کی تینچھا فرماؤں کے خوب سے خوب ترستقبل کی جستجو کیجئے۔ کئی نئی  
بائیس آپ کی توجہ کی منتظر ہیں۔ ماضی کا بوجھہ ذہن پر لاد کر چلیں گے تو قدم ڈگ کا جا ہیں  
گے اور زندگی کی دوڑ میں بہت تیچھے رہ جائیں گے۔

زاویہ نظر

زندگی کو خونگوار بنانے کے لیے پریشانوں سے دامن بچانا ضروری ہے۔ یہ کام  
تیز اور مشکل نہیں۔ جن باتوں سے جذبات مجرور ہوتے یا ذہن میں پریشانی اور

ماضی کا پوسٹ مارٹم

کسی بات یا واقعے کو خود اپنی برضی سے بھول جانا، ایک بہت بڑا فن  
ہے۔ نفیاںی نقطہ نظر سے یہ خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کامیابی اور  
خوبی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو اس فن میں ضرور دسترس حاصل کیجئے۔ یہ کام  
شائد اتنا آسان نہ ہو، مگر یقین جانے مشکل بھی نہیں۔ اس فن میں دسترس حاصل ہو  
جانے کے بعد انسان نہایت آسانی سے کئی ناگوار یادیں اور لمحہ واقعات ذہن سے نوچ  
کر لگ کر سکتا ہے اور یوں ان کے مضر اثرات سے بخوبی بچھوڑ رہ سکتا ہے۔

اچھی یاداشت بے شک ایک نعمت ہے۔ زندگی میں ترقی کرنے کے لیے کئی  
بائیس، معلومات اور تجربات ذہن میں محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مگر اس کے  
ساتھ ناخوشگوار باتوں اور ناکایی کی تینچھوں کو بھلا دینے کی صلاحیت بھی کچھ کم اہم  
نہیں۔ ہر انسان کو اپنے ذہن اور سوچ پر اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی واقعہ  
ذہن میں تازہ کرنا یا بھلا ناجاہے ایسا فوراً کر سکے۔ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ جن  
افراد میں بھول جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اکثر گوناگون مسائل اور کھوں کا شکار  
رہتے ہیں۔ کسی خیال یا واقعے کو ذہن سے نکالنے کی شعوری کوشش بھی کامیاب نہیں

## کامیابی اور ذاتی پریشانیاں

ہر پریشانی اپنے اندر ہی اپنا حل رکھتی ہے۔

مشہور امریکی مفکر اشنیلے آرنلڈ نے جب یہ بات کی تھی تو اسے وہ مقام نہیں ملا تھا جو آج حاصل ہے۔ ہماری نظر میں اشنیلے آرنلڈ کی یہ چھوٹی سی بات شہرے الفاظ میں تحریر کئے جانے کے لائق ہے۔ جو پریشان حال، مصیبت زدہ لوگوں کی زندگی کو سکر پلٹ دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ چند الفاظ اپنے اندر ایسا جادو رکھتے ہیں جو دھکوں کے ماروں کو ہر اڑوں مکن ورزی بوجھ سے آزاد کرو سکتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ہر مصیبت اپنے ساتھ سلسلہ ہاؤ بھی لاتی ہے۔ زیرِ نظر مضمون میں ہم اس کا تجربہ کریں گے۔

تمام دنیا میں اگر کہی مصیبت کے موضوع پر لفڑم کرایا جائے تو یقیناً اس کے خلاف اتنے دوست پریس گے کہ ان کی گفتگی شاہ کرنے والوں کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی۔ جبکہ اس کے وجود کی حیات میں بمشکل چند سو یا ہزار ہی اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ ہماری نظر میں یہ چند سو یا چند ہزار ہی ثابت سورج رکھتے ہیں کیونکہ مصیبت تھر خداوندی نہیں فتح خداوندی ہے۔ خدا اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی اس سے نوٹا ہے اور ان سے برداز ماہو نے پر انعام و اکرام عطا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ باقیں کسی حد تک ناقابل یقین ہی لگتی ہیں اور عین ممکن ہے کہ کوئی شخص ایسی باشیں کرے تو آپ اس کی صحیح الدمامی پر شک کریں۔ لیکن کیا الحیقت پچھے ایسا ہی ہے اور اس میں کسی شک و شبکی گنجائش نہیں۔ آئیے ہم اپنی بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ تصور کریجئے کہ خدا تعالیٰ آپ کو ایک ایسی چیز یا قدر سے نوازا تا چاہتا ہے جو اس کے خزانے میں بیش بہا اہمیت رکھتی ہے تو اس کے لیے خدا کیا طریقہ اختراکرئے گا؟ کیا وہ اسے سونے کے طشت میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا، یا کسی فرشتے کے ذریعے چلتی بس میں آپ کو تمادے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ خدا اس معاملے میں اپنے بندے پر تھوڑی سی ختنی کرتا ہے اور ذاتی دشوار راستہ منتخب کرتا ہے۔ وہ اس قسمی چیز کو کسی مصیبت، جان جوکھوں میں ڈالنے والی

پر اگندگی راہ پاتی ہے ان پر مطلق توجہ نہ کیجئے۔ انہیں نظر انداز کرنے کے عادی بنی اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب کہی پریشان ہوں۔ کسی خوبصورت اور سہاہی قدر کا منظر کا تصور کریجئے کوئی خوٹگوار واقعیاً پڑھا جاوہ لکھا لطفیہ یا فرمائیے۔ پریشانی کے بادل خود بخود تھہٹ جائیں گے۔ کام کرتے وقت اس عمل کو گاہے بگاہے دہرات ریے خوٹگوار تصورات اور حسین مناظر اس طرح آپ کے ذہن نقش ہو جائیں گے کہ پھر گرد و پیش سے لاعلان ہونے میں آپ کوئی وقت بخوبی نہ کریں گے۔ ایک مشہور دانشور کا قول ہے۔ ”لاعلن ذہن بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی سر ایسکی او افراتفری کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس گھری کی سی ہے جو طوفان برف و باد میں بھی برابر اپنے کام میں مصروف رہتی ہے۔“

ایک دلچسپ واقعی یاد آگیا۔ میرے ایک دوست سرکاری محلے کے اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہیں۔ ان پر ہمیشہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہوتی رہتی ہے مگر میں نہ انہیں کہی پریشان یا ہر اسالیہ دیکھتا۔ ایک بار باتوں باتوں میں اس کی وجہ پرچمی تھن پڑے اور بولے! تم نے میری طرف ایک انگلی انحصاری ہے مگر باقی تم ان انگلیاں خود تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بس یہی راز ہے میرے پریشان نہ ہونے کا ہے۔ لوگ جب مجھ پر ایک انگلی انحصاری ہیں تو مجھے اس حقیقت کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ باقی تم ان انگلیاں میری حیات میں خود ان کے ذاتی ناقص اور خامیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اب تم ہی بتاؤ ایسی صورت میں کسی کی بات کا برا کیوں مانوں؟

یہ بہت اچھا نکتہ ہے اسے ذہن شیئن کر لیجئے۔ آئندہ جب کوئی شخص آپ پر تقید کرے تو اس نکتے کو فوراً ذہن میں تازہ کر لیجئے اور سوچئے اس کی ایک انگلی آپ کی طرف آئی ہے مگر باقی تم ان انگلیاں خود اس کاپے کو دار کی خامیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

شعر بک ایجنسی

کامیابی کاراز

37

مشابہ حسین ہمارے دفتر ہی میں کام کرتے تھے یا بے کوئی چار پانچ سال قبل کی بات ہے جب ہم سب ایک دفتر میں جھوٹے جھوٹے عبدوں پر کام کرنے تھے۔ دوستی اور بے تکلفی کے ناطے سارے افراد آپس میں ہر وقت بڑی نمائش اور جملے بازی کرتے رہتے لیکن مشابہ حسین اپنی کری پر چپ اکیلا بیٹھا یا تو اپ راستہ بے مقصد انگلیاں چلاتا رہتا تھا یا سر جھکائے سوچتا رہتا تھا۔ اگرچہ میں نے کبھی مشابہ حسین کے تجھی معاملات میں غل اندازی کی کوشش نہیں کی تھی پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ حد سے زیادہ خیریوں اور پریشانیوں نے اس کا مراجع تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اس لیے کبھی بکھار میں اس کی خیریت دریافت کر لیتا تھا اور تھوڑا اپنے بولی لیتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور تھوڑے عرصے بعد میں نے دفتر چھوڑ کر اپنا کاروبار جمالی۔ مشابہ حسین کی مجھے کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ کیا ہے اور کس حال میں ہے۔ کئی سالوں بعد ایک شام وہ صدر کے علاقے میں مجھ سے نکلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر لکراتی نے جیسے مستقل ڈریا جیسا تھا۔ سلوٹوں میں ہرے لباس اور دندنی آگھوں والے مشابہ حسین کو دیکھ کر مجھے بہت دلکھ ہوتا تھا میں نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا اور بڑے خلوص سے پوچھا "کیا حال ہیں مشابہ حسین صاحب؟ سب خیر ہوتے ہے؟"

مگر روز مرہ زندگی کا یہ چھوٹا سا سوال ہی میر اقصور بن گیا اور چند لمحوں بعد مجھے احسان ہونے لگا کہ اگر میں نے میرے چند لمحے اس کے ساتھ اور گزار دیئے تو یقیناً کپڑے چھاڑ کر اور سر میں مٹی ڈال کر جگنوں کی طرف نکل جاؤں گا۔ مشابہ حسین نے غم داندہ کے فسانے شروع کئے تو ملائم پندرہ منٹ تک بولتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے کسی رکے ہوئے دریا کے سامنے سے بندہ ہٹا دیا ہے اور اگر میں یوں تھیں تو اس کی مانند کھڑا رہا تو اس کے فسانے ختم نہ ہوں گے مگر میری سماتحت ضرور تباہ ہو جائے گی۔ اس کی یا توں میں وہ تمام روز مرہ کی باتیں تھیں جنہیں میں معمول کی سرگرمیاں سمجھتا ہوں، مگر وہ مشابہ حسین کے لیے سزا کے کم نہ تھیں اور اس کی زندگی اور

شعر بک ایجنسی

پریشانی یا خونخوار بلا جسمی تکلیف کے قلب میں رکھ دیتا ہے اور پھر صبر و سکون سے آپ کو اپنا راستہ بناتا ہوا دیکھتا ہے آپ پریشانی مسلط ہوتی ہے تو دیوانہ اور آپ اس کے عمل کی طرف ہمگا گئے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں اور غور و فکر کے کوئی ایسی راہ نکال لیتے ہیں جو اس پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے۔ خدا آپ کی اس تمام جدوجہد کا بغور مطالعہ کرتا ہے اور جب آپ راستے کی تمام تکالیف، صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے مشکل کے قلب تک پہنچ جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر مجھے تو خدا کا انعام ایک ایسا گوہر آبادار ہے جو پریشانیوں کے سمندر کے وسط میں پڑا آپ کا منتظر ہوتا ہے اور آپ کی ذرا سی شبیت کوشش اس مولیٰ کو براہ راست لاتی ہے۔

دنیا میں بے شمار افراد ایسے ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش پریشانی سے مera زندگی ہے۔ ایسے لوگ آپ نے عام دیکھے ہوں گے ان کی سب سے بڑی پیچانہ وہ "ہائے ہائے" ہے جو ہر وقت ان کے منہ بلکہ تمام جسمانی اعضا سے برآمد ہوئی رہتی ہے۔ اگر مجھے ہیں تو "ہائے"۔ لباس بدلتے لگتے تو "ہائے" تھی کہ پانی میں کے بعد بھی گھری سانس لے کر دردناک "ہائے" یہ "ہائے" ان کی زندگی کا محور ہوتی ہے اور یہ اس "ہائے" کے اس قد رعاوی ہو جاتے ہیں کہ جب تک کوئی الناک آواز اپنے منہ سے نہ نکال لیں بس انہیں اپنا کام ادھورا محسوس ہوتا ہے۔ "ہائے" کے مارے ہوئے یہ لوگ اکثر کہتے ہیں۔ "ہائے" کتنا اچھا ہوتا اگر زندگی تھوڑی ہی آسان ہوتی تھاتی زیادہ مشکلیں ہوتیں نہ پریشانیاں۔ اس مزے سے جیتے رہتے اور زیادہ مرے میں تو اس وقت ہوتے جب کوئی مشکل ہتی نہ ہوتی۔ یا اے! خدا نے میرے ساتھ ہی ایسا ظلم کیوں کیا؟ یہ لوگ اپنی خود ساخت دردناک زندگی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی اپنا فساد غم ننانے سے نہیں چوکتے۔ لیکن کیا واقعی خدا نے بندوں کو پریشانیاں عطا کر کے ان پر ظلم کیا ہے؟ اگر پریشانیاں نہ ہوتیں تو کیا ہم بہت خوش ہوتے؟ کیا زندگی میں غم کی غیر موجودی دنیا کو واقعی جنت نظیر بنادیتی؟ ان سوالات کا جواب میرے ساتھ پیش آئے والے فتنے نہایت سادگی سے دے دیا۔

## شمع بک ایجننسی

موت کا مسئلہ نبی ہوئی تھیں۔ وہ ہر چیز سے پریشان تھا اور ان پریشانیوں سے چھکا کرنا حاصل کرتا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش زندگی سے فرار تھی۔

اپنی انتہائی برداشت تک میں نے اس کی تقریر سننے کی کوشش کی پھر تسلیک آکر پوچھا ”مشاہد صاحب آخراً پریشانیوں سے زندگی سے فرار کیوں چاہتے ہیں؟“

”اس لیے کہ مجھے لگتا ہے اگر میرے اعصاب پر چند دن اور یہ پریشانیاں سوار رہیں تو شاید میں باگل ہو جاؤں۔“ اس نے کہا۔ ”زندگی کی ابتداء سے لے کر آج تک مجھے ان کے علاوہ پچھنیں ملا انہوں نے میرا گھر برداد کر دیا، میرا ذہنی سکون لوٹ لیا اور آج میں اچھی خاصی مالی حیثیت رکھنے کے باوجود سکون کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سے شکایت کروں؟ کون میری مشکلات دور کر سکتا ہے؟ مجھے تو اب اپنی دعاوں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔“ یکدم میرے ذہن میں ایک نئے خیال نے سراہمارا۔ مجھے مشاہد حسین کی خدمت کرنے کا ایک نہایت موزوں راستہ بھائی دیا تھا۔ ”مشاہد صاحب۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔“ میں نے کہا۔ مشاہد نے چونکہ کہ مجھے دیکھا۔

”آپ کی بڑی مہربانی ہو گی آفتاب صاحب۔“ اس نے گرجوٹی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ ”میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ مجھے بس ایک مرتبہ اس پریشان کی زندگی سے بچات دلا دیجئے۔ میں آپ کو اس کا معقول معاوضہ ادا کروں گا۔“ میں نے حامی بھر لی اور اگلے دن اسے اپنے گھر بیالیا۔ وہ میرے گھر پہنچا تو خاصا پر جوش و کھلائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور گاڑی میں بھاکر باہر آ گیا۔ میرا رخ ایک نبتابستان علاقے کی طرف تھا۔ مشاہد حسین نے کئی بار اپنی منزل جاننے کی کوشش کی مگر میں با توں میں نال گیا شاید وہ اپنی منزل کو پسند نہ کرے مگر میری نظر میں پریشان حال زندگی سے بچنے ہوئے لوگوں کی اس سے بہترین کوئی جگہ نہ تھی۔ نیاواں لے لاشوری طور پر اسے پسند نہیں کرتے اور میں بھی اس کے قریب نہیں پہنچتا تھا۔ مگر مشاہد حسین کی پسندیدہ منزل وہی تھی میں نے اپنی کاراک

## کامیابی کاراز

39

## شمع بک ایجننسی

قبرستان کے دروازے پر روک دی۔ مشاہد حسین یوں اچھلا گویا کسی بارود کے ڈھیر میں چنگاری دکھادی گئی ہو۔

”گک..... کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میری مراد یہاں سے پوری ہو گی؟ آپ کا داماغ تو درست ہے؟“ میں نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔

میرا دماغ صحیح حالت میں کام کر رہا ہے مشاہد حسین صاحب، اور اپنی تاقص رائے میں صرف یہی وہ پر سکون اور خوش حال جگہ ہے جہاں کے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے زندگی کی دشوارگزاریاں ان کے لیے تمام ہو چکیں یہ آپ رام سے لیئے ہوئے دوسروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی علم، کوئی الہم نہیں، نافریقہ میں قحط کا نہ گوشت کی قیمتیں بڑھنے کا، نہ بڑی لڑکی کی شادی ان کے لیے مسئلہ ہے، نہ چھوٹے لڑکے کا داخلہ، قدرت نے انہیں سکون کا سرٹیفیکٹ دے دیا ہے اور اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اب یہ لوگ خوش و خرم ترین لوگ ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں میں شامل ہوتا پہنچنیں کریں گے؟“ میں نے پوچھا۔

”میں تو آپ کو خاصا معموقل آدمی سمجھتا تھا آفتاب صاحب۔“ مشاہد حسین نے غصے سے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ”مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاگلوں کے سر پر سینگ نہیں ہوتے۔“ میں نے قہقہہ لگایا اور دور جاتے ہوئے مشاہد حسین کو آواز لگائی۔ ”مشاہد صاحب۔ شکر کیجھے کہ آپ پریشانیاں رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ سوچئے اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی تو آپ بھی شاید نہیں کہیں لیئے ہوتے۔“ وہ مزے بغیر سیدھا چلتا چلا گیا۔ میں اپنے گھر واپس آگیا۔ مجھے اپنے خرچے کے اثرات کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک اور پرانے سائی ہی نے بتایا۔ ”مشاہد حسین افسون یونمن کا صدر بن گیا ہے۔ نہ جانے کچھ عرصے سے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ اب دفتر میں اس سے زیادہ باتوںی اور خوش مزان شخص کوئی نہیں اور اب تو اس نے بال بھی رنگئے شروع کر دیئے ہیں۔“ میں خاموشی سے سکر دیا۔

## مشکلات، بھرپور زندگی کی علامات

مندرجہ بالا واقع کے بیان سے ہمارا مقصد صرف ایک بنیادی بات کو ثابت کھا۔ لمحیٰ مشکلات قبضہ دنی میں بلکہ نعمت خداوندی ہیں۔ یہ زندگی کی علامت ہے بقاء کے لیے آگ، پانی، ہوا، مٹی کی طرح بنیادی عصر ہیں۔ مشکلات وہ بھی ہیں میں تپ کر سوتا کندن بن جاتا ہے اور ان کی اہمیت کو نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھنا پڑتے ہیں حق بجانب ہوں گے کہ جتنی مشکلات میں آپ گرفتار ہیں اتنے ہی زندہ کے سکتے ہیں۔ ایک شخص جو دس بڑی بڑی جاتی سائز کی خون خلک کر دینے والی مشکلات میں گرفتار ہے اس مطہر، پرنسکون اور کابل خص کے مقابلے میں وہ لگا زندہ ہے، جو کوئی پریشانی لاحق نہیں یا نہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے سائل دریٹ نہیں۔ درحقیقت سائل سے ہونا بھی مطلق پیاتوں میں سے ایک سلسلہ ہے۔ جس اس طرف آپ کو فوری توجہ دیتی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ خطر۔ میں ہیں۔ آپ میں زندگی کی مقدار کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا بھاگ دوڑئے۔ اپنے لیے مشکلات پیدا کیجئے مشکلات پیدا کرنے سے مراد یہیں کہ کسی نہ لڑائی جھگڑا کیا جائے اور مار پائی کے بعد نوبت پولیس تھانے تک پہنچ جائے اور آس مشکلات میں گرفتار ہو جائیں۔ مشکلات پیدا کرنے سے مراد ہے نئے چیزوں کی شیخیت ایسے شہت اور تمیری کام سرا جام دینے کی کوشش کیجئے جو آپ اپنی بساطے باہر کھجتے ہوں۔ اگر پھر بھی کام نہ بنے تو خدا سے گزرا کر دھان لے۔ اس سے درخواست کیجئے کہ وہ آپ کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرے۔ آپ کو ناکارہ آدمی اصور کر کے یونہی سپاڑا ہے۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ مشکلات آپ کے سر پر ڈال دنے۔

**بقول ایک مسلمان:-**

آج کے زمانے میں خدا سے "مشکلات" کے لیے دعا یقیناً مفہوم خراصر معلوم

ہوتا ہے لیکن آپ مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو چکا کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے لیے خدا سے آرام طلبی، عیش اور ہمارا پندری کے لیے دعا نہیں کی۔ بلکہ یہ شاگرد بڑھ کر مصلحتوں کو خوش آمدید کرنا اور اپنے خلوص سے ٹکرایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں ان کے نام کا ڈنکا چہار دنگ عالم میں گونج رہا تھا اور دنیا کی بڑی سے بڑی اقوام ان کے جذبہ ایمانی، عزم اور استقلال کے آگے ہتھیار چکنچکی جھیل جھیل۔ یہ مسلمان آرام کو اپنے اور حرام بھجتے تھے۔ شب و روزِ محنت ان کا شعار تھی۔ نہ جانے کیسے کیسے عمر کے انہوں نے مخصوص اپنی ایسی صلاحیت کی بنا پر جیتے کہ کوئی بھی مسلمان پیشہ دکھا کر جیسی بھاگتی تھا۔ خود ہمارے نیک تسلیت تام غزادت میں عام صاحبہ کے شانہ بیٹھا رہے اور وہ مگر ان انسانوں کی مانند جسم پر زخم کھائے۔ اگرچہ فرشتوں نے آپ کو مدد کی پیشکش کی اور کہا کہ حکم ہو کر واحد کے پہزادوں کے درمیان کفار کو خوبی دیا جائے۔ لیکن آپ کیلئے نئے فرمادیا آپ کیلئے نے بھی مسلمانوں کو مجاهد اور زندگی برقرار نے منع نہیں فرمایا اور ہمیشہ تلقین کی کہ ہر شخص کو اتنا ہی طبقاً حقیقی کی اس کوشش کی۔

آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے شعل را کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اصحاب کے اوسہ حصے میں اخلاق و کردار کی بلند یوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن کیا یاد ہے کہ آج ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر مغرب کے مادہ پرست مفکرین کی طرف اصلاح کے لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے ہیں؟ آج ہم سائل کے حل کے لیے ان سے مشورے مانگتے ہیں اور جب کام نہ بنتے تو تقدیر پر الزام ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم تاکہ ان کو خدا کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی خدا اپنے بنوں کو تاکام کرنا چاہتا ہے؟

کسی ماں سے پوچھا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ نہماں ایمان ہے۔ کسی خدا سے زیادہ ہم سے محبت کسی کو نہیں ہو سکتی۔ تو پھر خدا ہمارے کام کو تباہ کیوں کرے گا؟ وہ کیوں نہیں تاکام، ناصراد، مایوس رکھے گا۔ تاکہ انی کو خدا کی رضا یا تقدیر سے منسوب کرنا یقیناً کوچ فہمی پرستی ہے۔ خدا تو ہر شخص کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتا ہے۔ بندہ محنت

## آپ مشکل میں متلا ہیں؟ مبارک باد!

یہ اقتدار بھی زندگی کے ان بے شمار و اتفاقات میں سے ایک ہے جنہوں نے میری روح کے دھارے کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور زندگی کا ایک حقیقی انداز چیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک دن علی الصبح جب کہ شام مرغ نے اذان بھی نہیں کی تھی۔ میرے نیلیوں کی گھنٹی بھی اور ایک الی روح فراسخ برملی کے میرے دیوتا کوچ مر گئے خبر کاروبار کے متعلق تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں چکار کرہ گیا کہ کتاب کیا ہو سکتا ہے۔ صورتحال بڑی ناٹک بھی اور میری ذرا سی بھی تاخیر معاطلے کو مزید بگاڑ کتی تھی۔ میرے غور و فکر کے بعد بھی جب کچھ بھجھ میں نہیں آیا تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور تمام صورتحال واضح کر کے ان سے شورہ طلب کیا۔ لیکن دوسرا طرف سے جواب آیا وہ مزید حیران کن تھا۔ اس نے کہا۔

”مبارک ہو۔“ میں ہم کا بکارہ گیا اور حیرتی سے بولا۔

”بکواس مت کرو۔“

میری جان پر بھی نبی ہے تو دوبارہ مبارک ہو۔“ اس نے کہا۔ ”اگر تمہاری جان پر بھی نبی ہے تو دوبارہ مبارک ہو۔“ اس نے کہا۔“ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو۔ تھری خوب اپنے اندر تغیری پہلو بھی رکھتی ہے۔“ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے درپیش مشکل کا پھر پور مطالعہ اور تحریک کر لیا ہے؟ اگرہا تو اس سماںی اور حقیقی سوچ کا کتنا عمل و خل تھا؟ کیا اس تحریر سے میں پریشانی کی توعیت کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو چکا ہوں؟ یا صرف اس نے جنت بار بیٹھا ہوں کہ وہ دوسرے ہی تاقابل بھکت نظر آتی ہے؟

اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اس نے کہا۔ ”سب سے پہلے تو مسئلہ کو خفظ حصوں میں تقسیم کر دو۔ سوچو غور کرو، اس میں کیا غلط ہے؟ تم نے میں موز پر کیا غلطی کی تھی اور اب وہ غلطی کس طرح دور کی جا سکتی ہے۔ پھر ان سارے تسل شدہ حصوں کو دوبارہ ایک ایک کر کے جوڑتے جاؤ۔“ اس نے مجھ سے مسئلے متعلق تامہنہ وہ نہیں ہوتے۔ ہمارے درمیان کے ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن دوسروں سے مختلف۔

کرے تو وہ اس کو کئی گناہ زیادہ اجر سے نوازتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حقیقت کو بیچان لیا تھا اور غور و فکر کر کے محنت کی عظمت شاخت کر لی تھی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ کائنات کا خیر مشکلات سے گوندھا گیا ہے صرف اس لیے کہ انسان کو مضمون بنا جائے اس کے ارادے کو تابا بلند کر دیا جائے کہ وہ زندگی کی سخت سے سخت پریشانی کا بھی مردانہ وار مقابلہ کر سکے۔ اور زمین پر اپنے آپ کو خدا کا صحیح خلیفہ ثابت کر سکے۔

ہمارے بزرگ یہ بھی جانتے تھے کہ انسان کو قوی اور طاقتور بنانے کا واحد طریقہ جدو جہد ہے۔ انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں صرف اسی وقت ابھر کر سامنے آتی ہیں جب اسے مشکلات، رکاوٹوں، تکالیف کا سامنا ہو۔ اس کی ذہنی استعداد اثبات طریقہ زندگی اور فکر کا اندازہ ہمیشہ دور ابتلاء میں ہی لگایا جا سکتا ہے۔ درحقیقت ایک شخص اپنی ذہنی سخت کا اندازہ اس عمل سے لگا سکتا ہے جو مشکلات واضح ہونے کے بعد اس نے ظاہر کیا تھا۔ اگر وہ سر پر پڑنے والی آفت کے نتیجے میں آہ و فقاں کرتا ہے، جیخ دپکار مچاتا ہے اور خدا سے اس ”بے الناصافی“ پر احتجاج کرتا ہے، تو ماہرین نیفاتیں کی تخلیص کے مطابق اسے علاج اور امداد کی ضرورت ہے لیکن اُن کوئی فرد مصیبت کو کوئی سے قبول کر لیتا ہے اور اسے زندگی کا حصہ سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کی ذہنی حالت اطمینان بخش ہے اور وہ زندگی گزارنے کے لیے مناسب سوچ اور حوصلہ رکھتا ہے بعض غیر معمولی مثالوں میں افراد اپنے آپ کو مصیبت کا ہم پلہ کچھ کر صرف اسے حل کرنے کی ہی کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کارخ موز کو اس کے حقیقی اثرات کو پشت اثرات میں تبدیل کر کے اپنے لیے فائدہ مند بھی بنا لیتے ہیں۔ ایسے شخص کی ذہنات اور جرأت کا معیار عام آدمی سے بلکہ جانے کا فولادی عزم موجود ہوتا ہے۔ اگر غور کیجیے تو بلند ذہنات اور عزم کا معیار وہ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا تھا۔ بلکہ اس نے ماحول پر غور کر کے اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈھال لیا جو ہر ہمکن تو ملک بنادینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ کسی دوسری دنیا کے باشندے نہیں ہوتے۔ ہمارے درمیان کے ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن دوسروں سے مختلف۔

بع بک اینجنسی  
محلومات اور پاتیں حاصل کر لیں اور مندرجہ بالا تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک اٹتی نہ تھے۔ مشکلات سے ٹکراؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انسانی نفیات پر ایسا سادہ اور منطقی ساتھ چیز پیش کرو دیا۔ جس نے خرابی اور خائی کو میرے اوپر واپس کر دیا تو ہذا بہت عبور حاصل ہو۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں حائل یا پیدا شدہ پیشتر پھر اس نے مسئلے کا حل بھی بتایا اور مجھے افسوس ہونے لگا کہ اتنی سامنے کی باتوں کو بھی میں نے نظر انداز کر دیا تھا وہ مسئلہ جو میری دانت میں حل نہیں ہوا۔ سکتا تھا یوں چلکات کا تعلق اندازوں سے ہی ہوتا ہے اور یہ ابھی کے دم سے وجود میں آتی ہے۔ لہذا لوگوں سے پنشے کے گریکھنے۔ یہ گریکھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں۔ اس لیے صرف ایک مستعد اور چوکس دماغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ایسا دماغ جو روحی اپنے اطراف میں ماحول پر نظر کہ سکے اور لوگوں کے کردار و عمل کا جائز کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان اعمال سے مطلوب نتائج بھی اخذ کر سکے اور انہیں یاد رکھ سکے۔ انداز کا نہیں ہے تجربات سے اخذ کردہ تجربہ۔ ہی اصل اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔

ران سے اسے وہ فرق سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو ستابی اور حقیقی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اطراف میں یہ شماریے افراد کی مثالیں موجود ہیں۔ جنہوں نے اسکو لوں سے بڑی بڑی دُگریاں تو حاصل نہیں کیں لیکن ان کا مکمل ادا اس قدر گہرا اور وہ اتنی وسیع ہے کہ بہت سے عالم فاضل افراد ان کے آگے پانی پھر تے نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک انوکھا چھاپ بگر کر دوڑ پی سینہ نے ایک مرتبہ مجھے سے کہا تھا۔

ہر دل کی طرح ہر مشکل بھی اپنے اندر ایک نازک گوشہ رکھتی ہے۔ اگر تم مشکل کو حل کرنا چاہتے ہو تو اس زمگو شے کو ڈھونڈو۔ اپنے حالات میں اپنے دماغ کو استعمال کرو۔ ہر دل و دماغ سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حقیقی انداز میں اس کے تمام محصول کرنے لگو گے کہ جو کچھ تم جانتے ہو اس سے زیادہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ پھر جو کچھ تم جانتے ہو اس کی مدد سے اپنی مشکل کا نازک گوشہ حلاش کرو اور اس کو مختلف صوروں میں تقسیم کرو۔ تم خود دیکھو گے کہ اس کے بعد کام کچھ مشکل نہیں رہے گا۔

### سوچئے! ہر مشکل میں

مشکلات حل کرنے کا دوسرا طریقہ ”غور و فکر“ ہے۔ سوچئے، اپنے ذہن کو دوڑائیے اسے بے لام چھوڑ دیجئے تا کہ وہ معاملہ کے ہر طرف پکارتا پھرے

معلومات اور پاتیں حاصل کر لیں اور مندرجہ بالا تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک اٹتی نہ تھے۔ پھر اس نے مسئلے کا حل بھی بتایا اور مجھے افسوس ہونے لگا کہ اتنی سامنے کی باتوں کو بھی میں نے نظر انداز کر دیا تھا وہ مسئلہ جو میری دانت میں حل نہیں ہوا۔ سکتا تھا یوں چل جانے میں بھی گلی۔ بعد ازاں غور کرنے پر میں نے محضوں کیا کہ مسئلے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے حل کرنا زیادہ فائدہ مند اور کارامد ہے کیونکہ اس کے ذریعے ایسے ہیے صحنی پہلو بھی سامنے آتے رہتے ہیں جن پر بحیثیت مجموعی نظر نہیں پڑتی اور وہ بعد میں منتظر پر نمودار ہو کر زیادہ جتابی پھیلاتے ہیں۔ میرے دوست نے بعد میں کہا۔

”اپنے مسئلے کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسے دھیشت دو جو کسی عزیز دوست کو دی جاتی ہے۔ عزت، محبت، احترام اس کا حق ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اسے تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ یا تم اس کے دشمن ہو جاؤ گے۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر۔“ دونوں حالتوں میں تقصیان خربوزے کا ہی ہوتا ہے لہذا بھی بھی چھری کو اپنا دشمن نہیں بناؤ اس سے مل ملا کر کام نکالنے کی کوشش کرو۔“ میں نے اس کے خربوزہ کہنے کا آج تک برائیں بیانا۔

دنیا کے تمام نمایاں اور کامیاب افراد نے ہمیشہ ایک خاصیت اپنے اندر ضرور قائم کی ہے۔ وہ مصائب کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے، خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ مخفی دل و دماغ سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حقیقی انداز میں اس کے تمام پہلوؤں کا گہری نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو کسی ایسے فردے رابط قائم کرتے ہیں جو اسی ہی صورت حال سے گزر چکا ہو۔ وہ کسی مابردا اکثر کی طرح مسئلہ چیز چھاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں تا کہ ان کا اندر ورنہ بیرون سب جان لکھن۔ یہ چیز چھاڑی اپنیں حقیقی مسئلے کی طرف لے جاتی ہے اصل نہ حقیقی مسئلہ ہے۔ اگر آپ حقیقی مسئلہ کی بات جان گئے تو سمجھنے آپ کی کوئی مشکل، مشکل نہیں رہے گی۔ آپ بڑی سے بڑی چیزیں اور نازک صورتیات سے یوں باہر نکل آئیں گے جیسے کبھی اس میں

شمع بک ایجنسی  
دھرات اب تک ان سب کا تعلق دل سے ہی جوڑتے ہیں۔ درحقیقت دماغ کا وجود  
ہے تو انہاں ہے۔ تصور کیجئے آپ کے جسم میں سے دماغ بکال لیا جائے تو باقی کیا رہ  
جائے گا اپنے ایک گوشت کا لئے، تتمم ڈھیر جو اپنی ایک انگلی بھی نہیں بلکہ، چل پھر نہیں  
بلکہ، رنگ جس کے لیے بے معنی ہیں اور موسيقی ایک انجانی شے۔ غرض جو کچھ ہے  
دماغ ہے اور دماغ کی خصیت آپ ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی کی بنیاد قیام کرتی  
ہے، شاید نہیں آپ کی روح رہتی ہے۔  
عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ پریشانی یا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو  
ان پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ غالباً اس میں فطرت کا کسی حد تک دخل ہے جو  
انہیں سوچنے کی طرف سے ہٹا کر بدحواس ہونے پر مجبور کرتی ہے اور اس بدحواس کی  
حالات میں معاملات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ ایک ایسا دماغ جو نازک حالات  
میں پرکون رہ کر اعصاب کو متعلق پیغامات ارسال نہیں کرتا، جو بزرگ تر کر کے رکھ دیتا  
ہے حتیٰ کہ پریشان حال شخص کا نظامِ حضم یا معدہ تک بدحواس کا شکار ہو جاتا ہے اور  
اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ خراب حالات کے آگے ہتھیڑا دل دینے والا دماغ  
خود اس شخص کا درکش بن جاتا ہے اور اس کی بر بادی میں نہیاں کردار ادا کرتا ہے وہ شخص  
راتوں کو جا گتار رہتا ہے آئکھیں چھاڑ جے چھت کو گھوڑتا ہے۔ نہیں میں بڑا کراٹھی بیٹھتا  
ہے۔ وہ خدا سے فریاد کرتا ہے۔ ”یا الٰہ تو نے مجھے کس کرم کا پھل دیا ہے جو اس  
عذاب میں پھنسا دیا ہے میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یا خدا! میں کیا کروں؟“

لازی طور پر خدا کے پاس سے اس کے سوال کا جواب نہیں آتا کیونکہ خدا کا  
جواب تو پہلے ہی اس کے پاس موجود ہے لیکن خودا پہنچ آپ سے رجوع کرنا اور ہر مسئلے  
میں اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا۔ یہ رو یہ ہر مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ دنیا کی ہر  
پریشانی کے سدیاں کے لیے آپ کے اپنے دماغ کے پاس ترکیبیں موجود ہیں یہ ہر  
وقت مصروف عمل رہتا ہے اور آپ کی مدد کے لیے معلومات لا شعور کے تھے جانے میں  
جمع کر سکتا ہے جہاں آپ کو کسی نوعیت کی معلومات یا امداد کی ضرورت ہوتی ہے یہ۔

اور آپ کو نتیجے جگہوں سے متعارف کراتا رہے۔ آپ یقیناً ہر مشکل کا حل تاش کر  
سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ مستقل مزاہی اور جل کا دامن باتحہ سے نہ  
چھوڑیں۔ اگر آپ نے ان دونوں شرائط کو پورا کر دیا تو سمجھئے کہ ہر مسئلے کا حل گویا منوں  
کا معاملہ ہے۔ آپ کا سب سے بڑا انتہا ”دماغ“ ہے اسے مسائل کی جگہ پس  
دشمنوں کے لذاف استعمال کیجئے۔ یہ ہر قسم کے حالات میں آپ کا ساتھ دینے کی  
بھروسہ پورا الہیت رکتا ہے لہذا سے ہر دم اپنے ہمراہ رکھیں۔

تمام کائنات میں اشرف الحلقوات کا درجہ عطا کر دیا ہے لیکن ایڈیشن کی بات کا اگر  
منظقی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر ایک خاص ست میں اشارہ کرتی نظر  
آتی ہے لیکن زمین پر ہمارا وجود، کامیابیاں، خوشیاں، جذبے، تاکامیاں جی کہ مستقبل  
بھی صرف دماغ کا محتاج ہے اور وہی اس کا فصلہ کرتا ہے۔ یہ سب فیضی اس چھوٹی سی  
شے کے اندر کئے جاتے ہیں جن پر ہماری بقاء کا دارود مدار ہے۔ یہی ہمارے تمام  
انعامات متعین کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور خوب بھی اسی کے  
ذریعے، سمجھتے ہیں۔ اب ماہرین طبِ محبت کو بھی دماغ کا کامیاب کا ایک فلی بتاتے ہیں اور  
ان کی نظر میں دلِ محض ایک پیپنگ میں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تاہم شاعر

شعر بک ایجننسی

فوراً ہی مطلوبہ امداد آپ کو فراہم کرتا ہے اور دوبارہ اپنے کام میں جث جاتا ہے۔ سادہ سالمند ہر مشکل گھری میں انسان کے کام آتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ عمل صرف اسی وقت ظہور میں آتا ہے جب آپ اس کی اجازت دینے پڑتے۔ افراتفری، بھاگ دوڑ اور بیجان میں آپ کے دماغ کی اندر وہی حالت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اور اس میں پہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں لاشور کے تہہ خانے میں موجود معمولی معمولی گمراہ معلومات دماغ کی اوپری سطح پر نہیں پہنچ پاتیں اور نیجتیا لوگ ہم اپنے دماغ سے کئی کارآمد باتیں وصول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔

لہذا اسکی بھی منسلک کو بآسانی اور تیز رفتاری سے حل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پر سکون رکھا جائے دماغ سے اسی وقت تعمیری مشورے حاصل کئے جاسکتے ہیں جب اس کی بھوئی حالت تسلی بخش ہو یا دیگر الفاظ میں کہا جائے تو دماغ صرف اسی وقت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے جب وہ تھنڈا ہو۔ گرم دماغ سوائے خیالات کا راستہ روکنے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ دماغ کو پر سکون رکھنا کوئی اتنا مشکل امر نہیں ہے۔ اس کے لیے لکھن چند دنوں کے ذاتی لظم و ضبط کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو چاہے جسکی بھی صورت حال پیش آئے، ہر موقع پر اپنے آپ کو پر سکون اور بہتری بخواش رکھنے کی کوشش کریں۔ بھاگ دوڑ، بے جا اتفکرات، جیچ و پکارے پر بیز کریں۔ چند دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے مزاج میں جمل، بردباری، خوش اخلاقی نے اپنا گھر کر لیا ہے اور لوگ آپ کے مشورے کو بہت اہمیت دینے لگے ہیں۔

مشکل صورتحال میں پر سکون دماغ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو نہی آپ کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں آپ کا دماغ فوراً ہی چوکس اور مستعد ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ کرگزرنے کی خواہش کروٹیں لینے لگتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کے جسم اور روح کو بدتر حالات کا سامنا کرنے کے لیے تو انہی اور قوت بھی فراہم کرنے لگتے ہے۔ جب آپ پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں تو پھر دماغ مصیبت پر

کامیابی کاراز

شعر بک ایجننسی

حملہ آرہو تاے اور نہ تن ترکیں اور حل خلاش کر کے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے لیکن تمام کاروائی کے پیچھے بنیادی چیز غور و فکر اور تھنڈا دماغ ہے۔ یہ دونوں چیزوں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی مشکل، مشکل نہیں رہے گی۔ جو نہی آپ نے ان میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ چھوڑا۔ ایک مصیبت اپنی دوسری ساتھیوں کو بھی بلا لے گی اور وہ سب مل کر آپ پر خون آشام پچ گاڑوں کی مانند گلد کر دیں گی۔ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے گا۔ لہذا اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہر پریشانی کا مقابلہ بہت سہرا اور تکثر ہے کچھ بھی اس سلے میں ہم ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔

فوراً موڑ کپتی کا نام یقیناً آپ نے ساہو گا۔ گذشتقریباً نصف صدی سے اس ادارے نے کاروں، بڑکوں، بسوں اور بے شمار اقسام کی جدید ترین مشنبو پیش کرنے میں اپنی برتری کا تمیز کی ہوئی ہے اور اس وقت بھی دنیا ہے۔۔۔ دوں میں فوراً کا ہاتھ سب سے سخت ہے۔ فوراً کمپنی کے بالی صدھنی نہ فروزے ایں مرتبہ ہی نے پوچھا۔ ”مسٹر فوراً آپ کے ذہن میں یہ تمام ڈیالاٹ پہن۔۔۔ آئے۔۔۔ یا آپ نے کچھ لوگوں کوئے خیالات مجیش کر کے کیلے ملزم کر دیا۔۔۔ یا جنم قسمت کی بیان پڑھن میں لگائے اندازے کامیاب ہو جاتے ہیں؟“

مسٹر فوراً سوال سن کر سکرائے اور پاپ کا دھوan منہ سے خارج کر دھن ہوئے ہوئے۔ ”جیہیں معلوم ہے اس وقت تمہارے بدن پر فضا کا دیاواہ کتنا ہے؟ نہیں معلوم۔۔۔ خیر، میں بتاتا ہوں۔۔۔ اس وقت جسم کے ہر کعب انج پر چودہ پاؤں نہ کادباؤ مسجد موجود ہے لیکن تمہیں بالکل محسوس نہیں ہو رہا۔۔۔ سانچی طور پر تم جانتے ہو کہ یہ دباؤ موجود ہے لیکن ذاتی طور پر تمہیں اس بات کا قطبی کوئی احساس نہیں ہے کہ تمہارا جسم کس قدر زبردست دباؤ کے تحت ہے کچھ ایسی بات نئے خیالات اور سوچوں سے متعلق ہے جو ارادہ دماغ ان سے بھرا ہوا ہے۔۔۔ خیالات اس میں حقیقت ہٹنے ہوئے ہیں جنہیں ذرا سا بھی سبق ملتا ہے تو وہ اہل کر بناہر آگرتے ہیں۔۔۔ ان خیالات کا ہمارے دماغ پر زر افراحت ہوتا ہے لیکن ہم اسے بھی محسوس نہیں کرتے۔۔۔ کسی بھی معاملے میں

### کامیابی کاران

51

شم عبک اینجنسی  
کے بعد میں اسے دماغ میں ڈال کر بھول جاتا ہوں اور اپنے وسرے کام کرنے لگتے ہوں، پھر یونہی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے مسئلہ کا حقیقی اور انسان حل کسی روشنی کے خرابی سے مکمل طور پر پاک کر دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلہ کا حل میرے ذہن میں موجود ہے اور میں اسے حل کر سکتا ہوں۔“  
مشیر ہنری فورڈ کا یہ ذاتی تجربہ کوئی مذاق میں کئی گنجی بات نہ تھی۔ بلکہ کئی مرتبہ ایسا کسی محروم زدہ شخص جیسی کیفیت طاری ہو جاتی وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو جاتے اور خلا میں گھورتے لگتے۔ دیکھنے والے کے لیے ان کی یہ کیفیت کی وجہ یا اعصابی بیماری سے کم نہ تھی لیکن ان کے پرانے شاسماں نے تھے کہ جس وقت بھی فورڈ پر یہ کیفیت طاری ہو، اس وقت یقیناً ان کے ذہن میں کوئی معرفت الاراثم کا خال آیا ہو گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کیفیت کے دوران مشیر ہنری فورڈ خاموشی سے اٹھ کر میں چلے جاتے تھے اور کچھ عرصہ پوری تدبیح سے سوچ بچار کرنے کے بعد جو نیا منصوبہ سامنے لاتے تھے وہ ساری دنیا کو اتوں تک انگلیوں کو دیانتے پر مجرور کر دیتے تھے۔

ہنری فورڈ کی کامیابی میں ان کی ازدواجی زندگی کا بھی اہم کردار تھا ان کی شادی ایک کڑھم کی نہیں خاتون سے ہوئی تھی جو مجرموں، دعاویں اور عکون وغیرہ پر بھرپور اعتماد رکھتی تھی۔ جبکہ مشیر ہنری فورڈ کاروباری دنیا میں سوچ بچار کی مشین کے نام سے مشہور تھے اور تدبیر کو تقدیر پر ہر حالت میں ترجیح دیتے تھے تاہم مقناد خالات و اعتمادات رکھنے کے باوجود ان کی زندگی کو مشابی قرار دیا جاتا تھا اور لوگ ان جیسا بننے کی آرزو کرتے تھے ان میں سے ایک سوچ کا نامانشہ تھا تو دوسرا یقین کا۔ اور سوچ یقین جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں لا زماں مجھے رونما ہوتے ہیں۔  
کسی بھی مشکل گھری میں جہاں دماغ آپ کا سب سے بڑا تھیار ہے۔ وہیں

خدا کی ذات پر کمال اعتقاد آپ کی روح کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ اپنی روح کے لیے اس سہارے کو قائم رکھتے اور خدا کی ذات سے مایوس نہ ہوں، خدا کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے تو ہر حال میں آپ کا بھلا چاہے گا، وہ بھی بھی پسند نہ کرے گا کہ اس کی تخلیق کی مشکل میں گھری ہوا رخدا اپنی تخلیق سے نالاں و گریزان رہے بلکہ خدا ہمیشہ آپ کی مدد کرنا چاہے گا لہذا آپ بھی اس کی مدد طلب کجھے اور دعا کجھے۔ اس کے آگے دامن پھیلایا یعنے اور سرخ رکھتے پھر دیکھتے راستے کی رکاوٹیں کس طرح خود بخود دوڑ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف ماہرین فنیات کے مطابق دعا کا اثر جرأت اگنیز ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو اپنے آپ پر قابو پانے میں مددی ہے اور ذہن میں ٹھہڈا ہوتا ہے۔ عام طور پر جب لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بے اس اور لاچار تصور کرتے ہیں۔ اور ان میں عاجزی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ان کی جسمانی و روحی کیفیت میں شدت نہیں رہتی بلکہ وہ پر سکون ذہن اور پوری توجہ کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا، ہر پریشانی دور کرنے کے لیے بندی اور ضرورت پر سکون دماغ ہے لہذا ان کا یہ ارجمند خود بخود ذہن میں مشکل سے مغلظت نہ نئے حل بیمار کر دیتا ہے اور وہ صورت حال کوئئے اندر سے بکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں لہذا دعا کجھے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے مشیر ہنری فورڈ کا طریقہ فکر اور اندازِ عمل بیان کیا تھا لیکن یہ ایک بہت بڑے فرض کا طریقہ تھا جو اتنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت ہے۔ مثل کامیابی سے ہمکار ہوا۔ ایک عام ہنری سُن رکھنے والا فرد اس مثال پر غور کرتے ہوئے یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ ہنری فورڈ کو خدا نے جن صلاحیتوں سے نوازا تھا وہ اس کے پاس نہیں ہیں لہذا وہ اس مثال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہنری فورڈ ایک غیر معمولی آدمی تھا اور میں ایک معمولی آدمی ہوں۔ درحقیقت یہ ایک غلط روایہ ہے عام آدمی بھی اتنا ہی نہیں بلکہ کئی سنما زیادہ ذہن ہو سکتا ہے جتنا کہ ہنری فورڈ تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنی اس ذہانت کو پہچانے اور مناسب موقع پر استعمال

پر ہی اندر تشریف لے جائیں گے۔ وہاں قطار میں تشریف رکھئے۔ آپ کا نمبر چالیس ہے۔ ”غالباً سکریٹری نے اس پر پچے کو کی دزیریا، ہم شخصیت کا فاراشی نوٹ تصور کیا تھا۔ اس لیے اس کی طرف سے بے تو جبی برتی تھی لیکن اس کے مسلسل اصرار اور پراغماتی خصیت نے اسے محجور کر دیا کہ وہ پرچی اپنے باس تک پہنچا دے اس نے پرچی لے کر اسے کھولا اور پڑھا۔ پڑھتے ہی اس کے پھرے پر مکراہٹ دوڑنی اس نے دھیرے سے نہ کر کہا۔ ”اچھا۔“ وہ پرچی لے کر باس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اور دو دھیمان سے اپنی جگہ آکر پہنچ گیا۔ چند ہی تھوں بعد اندر کمرے سے ایک ۱۰۰۰ قیچیں لایا اور نامی، ہی۔ اچھا تھا۔ ”محترم جناب میں باہر جو ہالیں نمبر پر بیٹھا ہوں۔ برے ہمہ ہان میڈل اے میں جائے۔“ ایک مشہور کمپنی میں اائز کیڑے نے۔ ”رہہ، ہس سی ملازمت ہا اینداں زمان تھا۔ اچھا، ایک مشہور کمپنی میں سے بھی موجود تھے۔ اور سب وروزی مٹھوں سے بخوبی تھا۔“ ہاتھ پر مکراہٹ میں ایک کام ایجاد کیا۔ واحد مجدد یہ تھی۔ باہر ہجھ لیکے بکھر کر دیکھ رکھئے۔ اس کے پیارے بھائیوں کی بیان نہیں پاتے۔ ”تن سو ادیقتیں تمام سائل بختم کے تھے۔ اس نے یہ بھیجا تھا۔ لہ معمول اور بشت سوچ رکھنے والا فرد تھا کہ نہ کام نہیں ہوتا، وہ یادوں میں حل کر دیتا ہے یا اسے جزو سے ختم کر دیتا ہے یا کوئی ایسا راست تلاش کر لیتا ہے جس سے ذریعے اس مسئلہ کو بآسانی برداشت کر سکے۔“

مشکلات سے نہیں کے اس طریقہ کارکی مکمل وضاحت کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی گہرے باقی نہیں رہاں چاہیے تاہم ایک معمول کے رویے کے مطابق ہمارے بہت سے قارئین اب بھی یہ کہ کہتے ہیں کہ ”دھیک ہے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا، بالکل درست ہے لیکن آپ میرے بارے میں نہیں جانتے۔“ میری شکل و اتنی ایسی ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ میں آپ کے تھائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس حالت کے ہر پہلو پغور کر چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے بہت سوچا ہے اور صدق دل سے خدا کے حضور فرید بھی کی ہے۔ لیکن سب بے تنجور رہا۔ شاید بھری جھی ملکی کے۔

کر کے۔ ہنری فورڈ نے ہر موقع پر عقلی دلائل سے کام لیا اور کامیابی حاصل کی اگر ایک عام آدمی بھی چاہے تو عقلی دلائل اور قوت عمل سے اتنی ہی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں ایک عام آدمی کی مثال کو سامنے رکھتے ہیں جس کے لیے اسکوں کا زمان ایک ساتھ منتہ کھلیتے گزر اور پھر کافی یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے تقریباً ایک ساتھ ہی عملی زندگی میں داخل ہوئے تعلیم سے فراغت کے بعد مجھ تا ایک مناسب جگہ نوکری مل گئی مگر میراد دوست بے روزگار رہا۔ کچھ عمر حصے بعد اخبار میں چند نی اسامیوں کے لیے اشتہار جاری ہوا تو اس نے وہاں رخواست روشن کر دی اور پھر اشتہاروں کے لیے طلب کئے جانے پر مقررہ دن دفتر پہنچ گیا اس نے دیکھا وہاں امیدواروں کا تجویز لگا ہوا تھا۔ ان میں تو جو جان بھی تھے اور اوہ ہیز عرب، بھوت بوت میں بلکہ جھکتے ہوئے اور نیز ملکی پر قیوم ہے اور شہوں بھرے پاس دے اور پریشان ہے۔ دوست نے ”ان لوگوں پر خود کیا تو محسوں یا لذوہاں چند اگر اس سے بہتر بھی موجود تھے۔“ اُرسن پاک کی جیت پر یہاں دن دیکھنا ان تین سکسی ایک کوچیں بیٹھا۔ اس نے سوچ۔ ”ر محاملہ چونکہ مسابقت کا تھا اور وہ یہ نوکری اپنے لئے حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے اس نے ان بالصلاحیت تو جو انوں کو اپنا چار یعنی انصور کیا اور کسی ایسے طریقے کے لئے سوچ چاہا شروع کر دی جس۔“ ریلے وہ باس کی توجہ حاصل کر کے اور ان بالصلاحیت تو جو انوں سے اپنے آپ کو بہت ثابت کر سکے۔

وہ قطار میں بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا۔ سوچتا رہا۔ میاں تک کہ ایک نہایت سادہ مگر زو داڑھ خیال اس کے ذہن میں در آیا۔ وہ خاموشی سے قطار سے اٹھا اور کاٹنڈ کی ایک پرچی پر صفائی سے کچھ لکھا اسے نفاست سے تہہ کیا اور سامنے بیٹھی خاتون سلیمیری کو پکرا تھے ہوئے یوں۔

”ایک سکھی زی میں۔“ یہ کاٹھ بہت اہم ہے اسے جلد ا جلد اپنے باس تک پہنچا دیں۔“

سکریٹری نے سپاٹ چہرے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”آپ اپنی باری

## کامیابی کاراز

55

شمع بک ایجننسی  
چھپ رتھی کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے انسانی فطرت کو منظر  
جائیے! لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر شخص تھی کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے انسانی فطرت کو منظر  
رکھتے ہوئے فراہمی کے جملے میں یوں تمیم کی جا سکتی ہے کہ ”انسان کی سب سے بڑی  
ذمہ داری زندگی پر عبور حاصل کرنے ہے۔“ لہذا زندگی پر عبور حاصل کیجئے اس کے ہر شعبے  
میں کمال حاصل کیجئے۔ اس کو تمام خامیوں، خرابیوں، رکاوٹوں سمیت قبول کیجئے اور اپنا  
کام جاری رکھے لیਜئی سوچ پر رہئے، دعا کرتے رہئے اور یقین رکھئے۔

## آپ کے یقین میں ہی یقینی کامیابی ہے

دنیا کا ہر ثبت سوچ اور پر اعتماد شخصیت رکھنے والا فرد جانتا ہے کہ جس طرح خدا  
نے ہر مرض کی دو احتجاجیں کی ہے اسی طرح اسے دی جانے والی مشکل کا حل بھی اس کی  
اپنی ذات کے اندر مخفی کر دیا ہے۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ ہر مشکل کا حل تلاش  
کرے اور اپنے آپ پر ہی مشکل کشا ہونے کا یقین رکھے۔ مشکلات حل کرنے کے  
باب میں ہمارا تیر اعوان ”یقین“ ہے۔

مصائب سے جنگ میں یا آپ کا تیر اہتمام ہے۔ یہ وہ آخری طریقہ ہے جو  
اندھیری بھول بھیلوں میں خوفناک درندوں کے درمیان بھی کسی شخص کو جدو جہد جاری  
رکھنے پر مجبور رکھتا ہے۔ یقین ہی وہ چنان ہے جو زندگی کے اندھروں میں آپ کی  
رہنمائی کرتا ہے، وہ مقام جہاں ہر تدبیر ناکام ہو جاتی ہے۔ کوئی دغا اڑ کر تی دھائی

نہیں دیتی وہاں ایک شخص کا یقین کیا سانس کی آمد و رفت کا دیلہ بنتا ہے۔ اگر غور  
کریں تو خدا کی ذات کے اقرار سے لے کر کسی ایک شخص سے روپیہ ادھار لینے مک  
یقین ہی ہمارا سہارا رہتا ہے۔ ہمارے ہر عمل کا جواز پیدا کرتا ہے۔ غرض جو کچھ ہے  
یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ چاہے یہ خدا کی ذات پر ہو، چاہے نہ۔ کا اپنے

اوپر، لیکن سلسلہ امر ہے کہ اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے۔  
مشکلات حل کرنے کے ضمن میں ”یقین“ ایک نہایت طاقتور عنصر ہے۔ جیسی

سے سامنے آتا ہے اور زمانہ ابتلاء میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو گاڑی میں پہنچ جائے۔

## شمع بک ایجننسی

54

کامیابی کاراز  
آپ کو وادی طفیل پر اجنب ہی بتائے گے سارے فارموں لے فیل ہو گئے۔  
ہو سکتا ہے اس قسم کی شدید مشکل صورت حال بھی قارئین میں سے کسی کو درپیش  
ہو جہاں واقعی ہمارے لگائے ہوئے سارے اصول اور اندازے غلط ہو جاتے ہیں اور  
سب کتابی باتمی دھرمی رہ جاتی ہیں جب مشکلات سے نجات کا راستہ کسی بھی اندر ہیری  
سرگ کی طرح یک دم آگے سے بند ہو جاتا ہے اور انسان بے بُسی سے اندر ہیرے میں  
کھڑے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر زندہ رہنے کا صرف ایک ہی  
طریقہ رہ جاتا ہے ”امید“ جس کے متعلق ہم آئندہ طروں میں لفٹکوکریں گے تاہم  
عام رہ جان کے مطابق مشکلات حل کرنے میں ناکامی لوگوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے  
ہی ہوتی ہے۔ وہ صحیح سوچ کے ساتھ صحیح اندازے نہیں لگاتے اس لئے نامراد ہے  
ہیں۔ وہ اپنی مشکل کا یقین نہیں کر پاتے یا انہیں حقیقی مسئلے کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے  
اندر اس سوچ کو ابھارنے میں ناکام رہتے ہیں جو مشکلات حل کرنے کے لیے ضروری  
ہے اطمینان اور سکون سے سوچنے۔ کسی بھی معاملے میں جذباتی روایت اختیارت کیجئے  
بلکہ مختصرے دماغ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو بروزے کارلا یے۔ ساتھ ہی ساتھ دعا  
بھی کرتے جائیے۔ خدا کی رضا حاصل کیجئے جب آپ، عاکر تے میں اس وقت خدا  
بھی آپ کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ خدا سے بڑا  
سوچے والا کوئی نہیں ہے۔

دنیا کے عظیم ترین ماہر نفیات سکنڈ فرائینڈ نے ایک جگہ لکھا ہے ”انسان کی  
سب سے بڑی ذمہ داری زندگی گزارنا ہے۔“ یقین یہ چھوٹا سا جملہ ایک بڑے مفکر کی  
 جانب سے بڑی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے لیکن ہر شخص اس جملے کا پانہ نہایت زندگی  
بانے تو پچھر دنیا میں کامیاب اور باصلاحیت افرادی کی شدید کمی ہو جائے گی۔ اگر زندگی  
گزارنا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہمہری تو پھر اس ساری جدو جہد، پریشانی، تکالیف کا  
کیا فائدہ، آرام سے ایک جگہ بیٹھے کر، همہر و قاتعت کے ساتھ دوروں کی کھائیے۔ ایک  
جوڑے میں زندگی گزاریے اور پھر سکون سے کسی درخت کی چھاؤں تے مر

### کامیابی کاراز

56

### شمع بک ایجننسی

کامیابی کاراز

57

شمع بک ایجننسی کانٹل کر ان کے ملے کا حل والی صورت میں سانے آیا۔ انہوں نے سوچا کہ گری کے شدید موسم میں دھول سے اٹے ہوئے، تسلکے ہندے افراد کو دوران غرب سے زیادہ کس چیز کی طلب ہوتی ہے؟ جواب آیا ایک عمدہ مٹھے نے خرف سے بھرے ہوئے پانی کے گاس کی اکٹیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس جواب کو استعمال کیا اور قبضے کے باہر مرکزی شاہراہ پر چد سائی بورڈ نصب کرایے۔ ”مٹھنے پانی مفت..... مسٹیڈ ڈرگ اشور پر تشریف لائیے۔“ ”برف سے بھرے ہوئے گاس..... بالکل مفت..... مسٹیڈ ڈرگ اشور۔“ ”قطب شامی کا مٹھنا، تکین بخش پانی، مسٹیڈ ڈرگ اشور پر بالکل مفت۔“ ”تشہیر کے اس بخ انداز نے آہستہ آہستہ اپنی اثر کھانا شروع کر دیا۔ ابتدائی چند ہفتوں میں مرکزی شاہراہ پر سفر کرنے والے بہت کم افراد ان سائی بورڈ کی طرف متوجہ ہوئے پھر بھی میڈ اور ڈرگی کی آمدی میں اضافہ ہوا تھا۔ ٹوڑی بہت کامیابی پا کر انہوں نے اشتہاری بورڈ کا ذمہ اٹھا دیا اور انہیں قبضے والی کی چاروں اطراف کی آیادیوں میں نصب کرایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دکان کی آمدی بڑھتی گئی اور وہ اشتہاری بورڈ کو پھیلاتے گئے۔ مسٹیڈ ڈرگ اشور میں گاہوں اور سایحوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسٹیڈ ڈرگ اشور کے مفت پالی والے سائی بورڈ زپورے امریکی میں پھیل گئے اور آج صورت حال یہ ہے کہ مسٹیڈ ڈرگ اشور میں روزانہ چھ ہزار افراد خریداری کے لیے آتے ہیں۔ اپنی جیرت اگلی فرودخت کی بناء پر یہ دنیا کے بڑے میڈیکل اسٹورز میں شمار ہوتا ہے۔ فی الوقت اس میڈیکل اسٹور کے اشتہاری بورڈ دنیا کے ہر ٹھیکے میں موجود ہیں۔ اہرام مصر کے سامنے، قطب شامی میں، کوریا میں 10,728 حصی کوچاں محل کے سامنے بھی ایک بورڈ نصب ہے جس پر سرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیر کے ساتھ لکھا ہے۔ ”میڈیکل اسٹور“ میڈ اور ڈرگی کی یہ بے مثال کامیابی صرف ایک خصوصیت کی مرحوم منت

### شمع بک ایجننسی

کامیابی کاراز

57

کامیابی کاراز کی بھی فردی گرتی ہوئی خصوصیت کو نہ صرف سہارا دیتا ہے بلکہ اس میں رو عمل کر کے اسے نئے سرے سے تازہ دم کر دیتا ہے انسان کا اپنے اوپر یقین حقیقت کی اسas ہے اگر آپ اپنے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ مجھ میں بڑی صلاحیتیں ہیں اور میں ہر مشکل سے پاسانی باہر نکل سکتا ہو تو مجھے کہ آپ میں زندگی کی لائے کا چیز موجود ہے اور آپ ہر معاملہ میں جدوجہد کے ذریعے اپنا راست بنائے ہیں۔“ ایسے ہی چیزے 1931ء میں نیڈ اور ڈرگی مسٹیڈ نے ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا تھا اور جنوبی ڈکوتا، امریکہ کے ایک چھوٹے سے قبیلے وال کو ہوتے۔ صوتی و تجارتی شہر میں تبدیل کر دیا۔ نیڈ اور ڈرگی مسٹیڈ میں بیوی تھے دوں۔ دوں میں مطابقت لوٹا۔ قرار دیا جاتا تھا۔ نیڈ ایک دوسرا (فارماسٹ) تھا جوکہ دوں کو اسے پڑھا۔ پڑھا۔ میڈیکل اسٹور میں ایک دوسرے۔ ایک دوسرے۔ یا زاری اپنے تھامے۔ اس کے امدادی ریاست دوڑے پھونے سے قبیلے وال میں اس نے بادن۔ سرفتن۔ دنیوں پہنچا۔ اس میں ۱۹۰۱ء ان کی بھاں کوں لی۔ گر ابتدائی سر برداشت ناکامی اور خدا۔ اسے دوچار ہوئے۔ قبضے وال ایک اسیں چکدا۔ ان ہے۔ س کے دوں اطراف میں مشہور آنکھی مقامات اور سرم پانی لے چکے موجود تھے۔ مرسال کے پیشتر ہھے میں شدید قسم کی گری پڑتی تھی۔ دوںوں طرف جانے کے لیے شومن افراد وال ہی سے ہو کر لگزستے تھے مگر چونکہ بیان کوئی ہوئی نہ سرانے نہا گدھ نہیں تھی اس لئے قیام کرنے کے بجائے سیدھے نکلتے پلے جاتے تھے اور جب اپنی منزل میک پہنچتے تھے تو شدید گری، دعوب اور دھول میں سے ان کی حالت بگروچی ہوتی تھی۔ نیڈ اور ڈرگی کے لیے بنیادی مسئلہ کا یہ سوال تھا کہ آئرماساڑوں کو کس طرح میں ہاتی وے سے ہٹا کر قبضے وال میں داخل ہونے پر بھروسہ کیا جائے اور ”مسٹیڈ ڈرگ اشور“ سے خریداری کی طرف راغب کیا جائے۔ انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے بہت سوچا۔ دعا میں مانگیں اور بت۔ یعنی طریقوں کے بارے میں گور

### کامیابی کاراز

59

شمع بک ایجننسی  
ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ۔ ”اچھے موقع بھی آپ کے دروازے پر دستک نہیں  
دیتے بلکہ آپ کو خود اچھے موقع کے دروازوں پر جا کر دستک دینی ہوتی ہے اور اگر  
آپ بغور دیکھیں تو اچھے موقع آپ کے چاروں طرف موجود ہیں۔“  
آپ اس طرح کے مختلف نوعیتوں اور شکلوں میں آپ کے سامنے آ کر گزر جاتے  
ہیں۔ لیکن وہ بھی آ کر آپ کے سر پر سایہ لگکن نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا مشاہدہ اچھا ہے تو  
آپ اس طرح کے بھروسے کو بخوبی تاریکتے ہیں۔ اس کا اپنے طور پر جائزہ لے سکتے  
ہیں اور پھر اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اچھے موقع ہمیشہ ان لوگوں کی جانب بھتی  
ہیں جو محنت اور جانشناہی سے اپنے کام کرتے ہیں۔

عربی کی ایک مثال ہے کہ چار چیزیں بھی جا کر واپس نہیں آ سکتیں۔ ایک  
تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا تیر، دوسرا کمان سے نکلا ہوا تیر، تیسرا گز ری ہوئی زندگی  
اور چوتھا ایک موقع جو جاتھے نکل گیا ہو۔

جس طرح فتح بال کا ایک اچھا کھلاڑی گیند پا کر فوراً نہایت تیزی کے ساتھ  
گول کی جانب لپٹتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کوئی اچھا ساموونگ ملے اسے فوراً اپنے  
دونوں ہاتھوں سے پکڑ لجھتے اور پھر اسے لے کر نہایت تیزی کے ساتھ اپنے  
”گول“ کی مقرونہ لائیں کی طرف بڑھتے۔ ایک مرتبہ مجھے سیلان میونوں کے ایک کونش  
میں ایک مقرر کی تقریر ہنسنے کا موقع لا جو یہ کہہ رہا تھا! ”یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے ایک  
ایسا سیلان من جو کسی جگہ میختاہنے گا کوئی کام کرنے کا انتظار کرتا ہے کہ جب کوئی اچھا گاہک  
آئے گا اسی قوت وہ اس سے کوئی سودا کرے گا تو پھر اسے ایسا یہ کاروبار چھوڑ دیا  
چاہیے اور اس کی جگہ اسے لوح مزار بناتا کر فروخت کرنا چاہیے۔“

یہی صورت حال اچھے موقع کے لیے بھی ہے۔ جو شخص اچھے موقع نہیں  
میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس تو وہ ہرگز اچھے موقع نہیں  
آتے۔ البتہ سڑک پر جو شخص اپنے قدم تیز رکھتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا ہے اسے  
موقع ضرور مل جاتے ہیں۔

### شمع بک ایجننسی

58

کامیابی کاراز  
ہمیشہ انہوں نے ناکامی کے آگے گلکست تعلیم نہیں کی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ قصہ وال  
جسمے دیرانے کو بھی گل و گلزار کر سکتے ہیں اور آگ اگلتے سورج میں سے اپنی روزی باہر  
چھکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے کوشش جاری رکھی اور بالآخر اپنی منزل پا  
گئے۔ خدا نے ان کی فکر، دعاوں اور یقین کو رایگاں نہیں جانے دیا۔ بلکہ انہیں ان کی  
توقات سے کہیں زیادہ انعام سے نوازا۔

مجرد سا، دکھانی دیتا ہے۔ میڈ اور ڈرورکی نے ابتداء میں بہت سوچا تھا، بہت ترکیبیں  
لڑائی تھیں، حصی دعا میں یاد تھیں سب مانگ لی تھیں۔ مگر پھر بھی ناکام رہے تھے۔ ان  
کا اسشور خاطر خواہ تقویٰت حاصل نہیں کر سکا تھا پھر بھی انہوں نے آس کا دامن ہاتھ  
سے نہیں چھوڑا۔ انہیں خدا اور اپنی ذات پر بھروسہ تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ ہم، ہر  
مشکل حل کر سکتے ہیں، چاہے راہ میں کسی ہی روکاڈیں کیوں نہ حائل ہوں۔ لہذا یہ  
یقین انہیں کامیاب کر گی لہذا آپ بھی ہر مشکل گھری میں اپنے آپ پر یقین  
رکھتے۔ آپ ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ہر مشکل کا حل موجود  
ہے۔ یہ اسکا، کہ آپ یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر سوئی ہوئی تو توں کو جگھاتا  
ہے اور آپ خود محبوس کرنے لگتیں گے کہ آپ کی دنیا میں حقیقی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔  
پس ثابت ہوا کہ مشکلات سے نہیں اور انہیں خوش اسلوبی سے حل کرنے کے  
لئے تم چیزیں یعنی معلومات، لفکر اور یقین بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے ہر سکے  
سے متعلق ان تینوں باتوں سے اچھی طرح آگاہ ہیں تو سمجھئے کہ پھر آپ کا کوئی مزید  
مسئلہ نہیں رہا ہے۔ آپ ان تین ہتھیاروں کی مدد سے اپنے دشمن کو جٹلی بجائے ہی ختم  
کر سکتے ہیں۔ کوئی کام وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔

### اچھے موقع اور ان کا استعمال

ایک مشہور میں الاقوای ادارے کے سابق چیئرمین ٹائمس جان والٹن کا یہ مقولہ

### کامیابی کاراز

61

شعر بک ایجنسی  
ہو جاتی ہے اور شاوز و ناڑی کوئی کام ادھورا پردازہ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیونکر ہوتا ہے؟  
وہ اپنے ماتحت اشاف سے کام لینے اور ان کے تعاون سے وہ اپنی مختلف ذمہ  
داریوں سے گلوخانی حاصل کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ میں جس شخص کا ذکر کر رہا ہوں  
اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مختلف نوعیت کے کاموں کے کاغذات پر ایک ایک سلپ  
چپاں کر دیتا ہے اور پھر اس طرح کے مختلف نوٹ لکھ کر اپنے ارڈری کے جوابے کر دیتا  
ہے جو انہیں ان پر لکھے ہوئے ناموں کے مطابق تقدیم کر دیتا ہے۔  
سرور صاحب، ان کاغذات پر ایک سرسری نظر ڈال لجھے اور شام تک مجھے مطلع  
بیجو کہ ان کاموں میں سے کتنے باقی رہ گئے ہیں؟  
”مشریح ہے، آر آپ ان کاموں سے سپہر تک فارغ ہو جائیں تو میں آپ کو  
ایک مصری سکارچیں کروں گا۔“  
”ان کاغذات کے متعلق آپ جیسا مناسب سمجھیں کریں، میں نے آپ کو پورا  
اختیار دے دیا ہے۔ لیکن ہاں رسید صاحب یہ تو میں بھول ہی گیا۔ آج شام آپ کیفے  
ثیر یا میں مجھے سل لیں۔“  
”مشریح ہے، آپ اکاؤنٹنگ کا کام مشریح ہی کے جوابے کر دیں اور  
تغواہوں کے مل بنانا شروع کروں گے۔ آج ۲۰ بارچ ہے۔ ۲۸ بارچ تک یہ کام ضرور ختم  
ہو جاتا چاہیے۔“  
بہت اچھی تغواہ پانے والا یہ افسر اعلیٰ اس طرح اپنے کام اور ذمہ داریاں، اپنے  
ماتخوں کے پردرکر کے بہت ہی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس بات کا پورا  
موقودیں جاتا ہے کہ تھی تھی باتیں سوچ کئے اور کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کچھ نی  
اسکیمیں اور منصوبے تیار کر کے۔

اپنے دونوں کان ہمیشہ کھل رکھیں۔

اگر آپ ہوشیار اور چوکے رہیں تو آپ بھی نہ کبھی دوسرے لوگوں کی زبان سے

### کامیابی کاراز

60

ہماری اس دنیا میں طرح طرح کے موقع موجود ہیں۔ لیکن وہ ہماری نظر و  
سے پوشیدہ ہیں۔ سب سے اچھے موقع کو حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا  
بس ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیشہ کارگر ثابت ہوا ہے۔  
وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دونوں آستینیں چڑھائیں اور پوری تنہی سے  
اپنے موجودہ کام میں لگ جائیں اپنے طرح اپنے کام سے لطف انزوں ہونے کے علاوہ  
آپ اچھے موقع کے بھی منتظر ہیں اور ان سے پوری طرح استفادہ کریں۔  
ایک مرتبہ دوپہر کے کھانے پر ایک ریسٹوران میں شہر کے مشہور کاروباری ادارہ  
امیرن کار پوریشن کے صدر سے میرا ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا! ”پہلے کے مقابلے  
میں آج کل جلد ترقی کرنے کے لیے اچھے موقع بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہ  
موقع ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔“ پھر وہ چند لمحات کے  
توقف کے بعد بولے۔ ”افسوس اکثر یہ اپنے لوگوں کی ہے جو، ان اچھے موقع سے کوئی  
فائدة نہیں اٹھاتے اور اپنا بہت سا قسمی وقت یوں ہی مقدمہ گنادیتے ہیں۔“

یہ کامیاب ترین شخص جس نے نہایت معمولی حیثیت سے ترقی کی تھی، دوسرے  
لاظھوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر شخص کو اپنے اندر معمول سے کچھ زیادہ کام کرنے کی  
صلاحیت پیدا کر لی جائے، گیوں کہ اسی صورت میں وہ اپنے لیے کوئی راست بناتا ہے۔  
ماہرین نے اچھے موقع حاصل کرنے کے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ ذیل میں  
ہم تفصیل سے وہ اصول بیان کر رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ بھی زندگی میں بہتر  
موقع حاصل کر سکتے ہیں۔

میں نے بہت سے ایسے لوگوں کا گہرا مطالعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے لیے اچھے  
موقع پیدا کر کے دوسروں کے ذریعہ فائدہ اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑے  
کاروباری ادارے کے نائب صدر کو لیں ہے اپنے کاموں پر پورا عبور حاصل ہوتا  
ہے۔ اسے روزانہ درجمنوں نہایت اہم کاموں سے نمٹنا پڑتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ  
بہت کام بذات خود انجام دلتا ہے۔ اس کے باوجود شام تک اس کی میز بالکل صاف

### کامیابی کاراز

63

### شمع بک اینجنسی

لہڑاکوں اور اشوروں کو سپالائی کرنا شروع کیا۔ اپنے فالتو اوقات میں وہ بھی کام کیا کرتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں بازار میں اس چیز کی اتنی زیادہ مانگ ہونے لگی کہ ان کے لیے اس مانگ کا پورا کرنا نہایت دشوار ہو گیا۔ کمال صاحب نے محسوس کیا کہ اب انہیں اس کام میں پوری سرگزشت دکھانی چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنی ملازمت سے استعفی دے دیا۔ اس موقع پر انہیں پر اور یونٹ فنڈ کی حصی بھی رقم طی وہ انہوں نے اپنے اس کاروبار میں لگا دی۔ کچھ ہی عرصہ بعد جسے معلوم ہوا کہ کمال صاحب نے اپنا کاروبار اپنے ایک باقاعدہ کمپنی کی صورت میں بدل دیا ہے اور اب اس دو اکٹھا شہر ات نہایت پابندی سے ریڈی ہو اور ملی ورثوں کے کرشل پر گراموں میں نشہوتے ہیں۔

اس کے صرف ”سال بعد“ کمال صاحب کے تمام حالات ہی مکر تبدیل ہو گئے انہوں نے شہر کے سب سے اچھے علاقوں میں ایک بڑی سی کوشش خریدی پھر نے ماذل کی ایک کاروباری لے لی انہوں نے اپنی پر ڈوکٹ کی پیپلک کے لیے شہر سے باہر

ایک کارخانہ قائم کیا جس میں دو سے زیادہ آدمی روزانہ کام کرتے ہیں۔ سوال چیز پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ اور دیکھتے دیکھتے ان کے دن کیسے پھر گئے؟ جھض چوکتے رہنے اور اپنے کام ہمیشہ کھل رکھنے کی وجہ سے! اگر وہ لوگوں میں ان کیمپشوں کی باتیں بغور نہ سننے تو انہیں کیوں کہراں دو کا حال معلوم ہوتا اور وہ اس کاروبار کی جانب کیسے مائل ہوتے؟

### وقت ضائع نہ کریں

بعض لوگ اپنے ہر کام میں نہایت محتاط ہوتے ہیں اور اس کی تفصیلات کی جانب زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو شخص تفصیلات کے پکڑ میں پر جاتا ہے وہ بہت سے اچھے موقع اپنے ہاتھوں سے کھود جاتا ہے یا انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیونکہ اچھے موقع کے جگہ میں جب اس کی نیکائیں ان کا نئے والی حجاجاً یوں پر پڑیں جو وہاں آس پاس موجود ہوتی ہیں تو انہیں وہ ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے

کوئی ایسی بات بھی ضرور سن لیں گے جس کے ذریعہ آپ کو اپنا یا منسوبہ بنانے میں بڑی مدد اٹھتی ہے۔ یوں تو اکثر لوگ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن کامیابی اسی کو ہوتی ہے جو انہیں عملی جامہ پہننا ہے۔ میرے ایک دوست کمال صاحب کو اپنی شستے ہیں اور پھر اپنے طور پر ان سب کا بچیر یہ کہ کسی ایک کام اتحاب کر لیے ہیں اور پھر اسے عملی جامہ پہننا کرفائدہ اٹھاتے ہیں۔ کمال صاحب نے اس طبقے میں اپنا ایک واقعہ سنایا کہ۔ ”ایک مرتبہ وہ لوگوں میں کہیں جا رہے تھے کہ یہاں ایک نی دوست کیست بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ یہاں ایک نی دوست گیا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ اگر یہ دو احکوم کے حساب سے خریدی جائے تو عام طور پر ڈھائی تین روپے فی پوچھ کے حساب سے مل جائے گی اور پانی میں ملا کر چھوٹی بوکلوں میں بھر کر کافی منفعت بخش داموں پر فروخت کی جا سکتی۔ لاغریوں اور گھر پر دھونے والوں کے لیے ”عجب چیز ہے“ یعنی اگر یہ دو ایک بالی پانی میں ایک چائے کے چمچے کے برابر لے کر ڈال دی جائے اور پھر اس میں معمولی دھلا دھلا کر ابھی پچھدری کے لیے ڈال کر نچوڑ لیا جائے تو اس میں اتنی نرمی اور چک پیدا ہو جائے گی کہ سب کو ہی حرمت ہوگی اور اس میں غوطہ دیا ہو کر پڑا جلد خشک ہی جا سکتی۔“

کمال صاحب نے یہ تمام باتیں سن کر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں اور پھر اپنے طور پر انہوں نے اس دو اکٹھا میں تخلیق اپنی جان بیچان والے کیمپشوں سے بھی پوچھ گئے اور جب انہیں اس کی جانب سے پورا اطمینان ہو گیا تو پھر انہوں نے معلوم کیا کہ یہ دو کھاں سے زیادہ مقدار میں خریدی جا سکتی ہے؟ عतھر یہ ہے کہ انہوں نے وہ دو اکٹھی مقدار میں خریدی۔

جس کی وجہ سے وہ ڈھائی روپے فی پوچھ سے بھی سکی پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے مشورے سے اس دو اکٹھا نہایت اچھا اور مختصر نیا نام رکھا اور پھر اشہاری ہینڈ میں اور لیٹل وغیرہ چھپوا کرنی خوبصورت شیشیوں میں بند کر کے شہر کی مختلف

شمع بلک ایجننسی 65  
رپورٹ دغیرہ میں زیادہ تفصیلات مطلق پسند نہ کرتا تھا۔ وہ بھی ٹائپ کی ہوئی کوئی  
ٹولیل رپورٹ نہیں پڑھتا تھا اور فوراً واپس کر دیا کرتا تھا کہ اسے مختصر کر کے لاؤ۔ واقعی  
موجودہ دور میں زیادہ طولیل رپورٹ نہیں، درخواستیں یا سفارشات مطلق پسند نہیں کی  
جاتیں۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔

### اعتدال پسندی

اگر آپ کی بہت بڑی صحنی فرم میں ملازم ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کو  
جلد ترقی کرنے کے موقع میں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے  
”باں“ کی یا توں پر عمل کریں۔ اس کے برخلاف اگر آپ اپنے افروں سے اکثر  
لارائی جھگڑا کرتے رہیں گے تو اچھے موقع آپ سے روٹھ کر کسی اور طرف کا رخ  
اختیار کر لیں گے ملازمت پیش افراد کے لیے اپنے افروں سے جھگڑا مولیں لینا کافی لاط  
سے قصان رہے یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی آپ کا افراد ہے۔ وہی اچھے موقع کے  
دروازے کی طرح بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب کسی بھی ملکہ میں نچلے درجے کے عملے  
کی ترقی کا مسئلہ زیر غور ہوتا ہے تو افروں کی کافرنیس میں وہی لوگ آگے بڑھائے  
جاتے ہیں جن پر انہیں پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ جھگڑا الوارفتہ پروافر اد کی ترقی کے لیے  
کوئی بھی سفارش نہیں کرتا۔ جو افراد اپنے افروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں  
انہیں یقیناً جلد از جلد ترقی کے موقع حاصل ہوتے ہیں۔

### شرمائیے مت

آخر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے سائل اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کرتے  
ہو جے کچھ جھک سی محسوس کرتے ہیں لیکن یہ انسانی نظرت کا تقاضا ہے کہ جب ایک  
آدمی کسی دوسرے شخص کے سامنے اپنے سائل پیش کرتا ہے تو وہ خود بخود اس کی امداد  
کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور بالا معاوضہ سے ایسے مفید مشورے دیتا ہے کہ اس کے

گلتا ہے اور ان موافق کے شردار رختوں کی جانب اسی زیادہ توجہ نہیں دیتا۔  
بہت سے لوگ اپنے کاموں میں محض اس لیے طرح طرح کے الجھاؤ پیدا کر لیتے  
ہیں کہ وہ اس کی تفصیلات میں پرکراں کے نفع بخش پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔  
چنانچہ ماہرین نے تفصیل پسندی کی اس عادت کا نام اپنی اصطلاح میں (ڈیبل اور بیان)  
رکھا ہے۔ یہ رے ایک دوست ہی صاحب نے جب رسالے کیے ایمیل ٹریک ہیئت سے  
زیادہ تفصیلات میں نہ پڑیں گے اور جہاں تک ممکن ہو گا خط و کتابت میں بھی اختصار سے  
کام لیں گے۔ چونکہ یہ رے اکثر مقامیں ان کے رسالے میں حصہ رہتے تھے اس لیے  
میری ان کے ساتھ نہایت باقاعدگی سے خط و کتابت بھی رہا کریں تھی۔ جب بھی بھی  
کوئی خط لکھتے تھے نہایت مختصر کر کوئی دوسری شخص اسے پڑھ کر بخشل ٹھیک مفہوم بھی سکتا  
ہے۔ مثال کے طور پر ان کی تحریر کے چند نمونے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

آپ کا مضمون پسند کر لیا گیا ہے، معاوضہ کی رقم چیک کی صورت میں حاضر  
ہے۔ آپ کا ملخص بھی۔ انہوں اس مرتبہ آپ کا مضمون منتخب نہیں کیا جا سکا۔ مسودہ  
اصل خط کے ساتھ محفوظ ہے۔

### خیر طلب بخشی

ان مندرجہ بالا دو مختصر تحریروں سے ہی آپ کو اندازہ ہو گا کہ مزید بھی کتنے  
اختصار پسند واقع ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی مضمون ان کے  
رسالے میں شامل ہونے کے قابل ہے یا نہیں تو وہ اس کی تفصیلات میں پڑھ کر خواہ نہیں  
اپنادیت شائع کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن، جب ان کے قلم سے ایک مرتبہ ”نہیں“، ”کل گیا  
تو وہ کسی ”باں“ میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔  
کانگ کی تعلیم سے فارغ ہونے کے فراغم میں نے عارضی طور پر کچھ عرصے کے  
لیے ایک بینک کی ملازمت کر لی تھی۔ وہاں مجھے ایک ایسے افسر سے ساتھ پڑا جو

کامیابی کاروں

67

شمع بک ایجننسی  
تمی اور نہ وقت پر پہنچنے کا وہ پابند تھا۔ اس سے وہاں کوئی بھی پوچھ چکر نے کامیاب نہ تھا  
لیکن ان تمام باتوں کا اور اس کے بے اصول پن کا نہایت خراب نتیجہ تھا اس کے  
اتخوں کی نظر وہ میں اس کی کوئی عزت اور قدر باتی نہیں رہ گئی آپس میں وہ اس کے  
متعلق طرح طرح کی آوازیں کہتے کوئی کہتا نہیں کرتے! بس آرام کرنے اور حرام کی  
تنجواہ پاتے ہیں۔ لیکن کام دھام پچھلی بھی نہیں کرتے! میں اتنی بڑی  
کھانے جانے سے نہیں مطلب ہے! لیکن یہ صورت حال زیادہ دنوں تک نہ پہل  
کی۔ کچھ ہی عرصہ میں اس کے ماتحت کوئی خصوص کام میں یہ مہارت حاصل ہو گئی اور وہ  
اپنے افسر کے مقام تک جا پہنچا اور افسروں والے نو دو گیارہ ہو گیا۔ ایک بالکل خصوص کو  
اسے اپنے عمدہ کام پر دوسروں کی زبان سے تعریف و سماش حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس  
کو ایک خاص لطف دا سودگی عطا کر دیتی ہے۔ ذہن میں اس خیال کا پیدا ہو جاتا کہ  
اب کوئی دوسرا شخص اس سے بہتر کام انجام نہیں دے سکتا۔ اندر وہی طور پر ایک عجیب  
خوشی اور قلی طہانتی پیدا کر دیتا ہے۔  
میں نے کامیاب ترین افراد کی زندگیوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہے۔ ان میں سے  
بعض زندگیاں سطحی طور پر ایک نظر آئیں جن کی کامیابی قسمت کی مرہون منت تھی لیکن  
جب میں نے ذرا اور گہرائی میں دیکھا تو پا چلا کر کوئی کامیاب زندگی بھی اس کلیے سے  
متاثر فرائیں دی جاسکتی۔

پہلے منصوبہ بندی اور تیاری

اس کے بعد خخت اور لگاتار جدوجہد۔ جب تک یہ دنوں صورتیں اختیار نہیں کی  
جاتیں کامیابی کے لیے کسی اچھے موقع کا ہاتھ کا آٹا نہ صرف جمال بلکہ ناممکن ہے!  
اگر آپ خود اپنی زندگی پر ایک سرسری نظر؛ ال جائیں تو یہ بیکھیں گے کہ بہت  
سے ایسے موائع گزر گئے جن سے آپ نے پورا فائدہ اٹھانے کی کوئی خاص کوشش نہیں

شمع بک ایجننسی

66

کامیابی کاراز  
مسئلے چلی جاتے ہوئے حل ہو جاتے ہیں۔  
آپ کسی شخص سے مشورہ طلب کریں تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے بخوبی  
آمادہ ہو جائے گا بلکہ اپنے ذاتی حالات اور مشاہدات بھی اس تفصیل کے ساتھ بیان  
کرے گا کہ کسی اور طرح ہرگز بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی کے ذاتی حالات اس کی  
زبان سے سننے کے خواہش مند ہیں تو اس سے کوئی مشورہ طلب کیجئے وہ اسی وقت آپ  
سے اپنے ذاتی تجربیات بیان کرنا شروع کر دے گا اور آپ کو اپنے حالات کی روشنی  
میں سمجھائے گا جب کوئی شخص کسی کو دوسرے کے پاس مشورہ حاصل کرنے کے لیے جاتا  
ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اسے اخلاقاً مشورہ دیتا ہے بلکہ وہ یہ مشورہ دینے میں ایک خاص  
قسم کی خوبی اور آسودگی بھی محبوس کرتا ہے۔

یہ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھے افسروں کی بیویش تعریف کرتے ہیں  
اور ان کی تعریف پچھے اس قسم کی ہوا کرتی ہے! ”وہ نہایت شریف اور نعمتی ہے۔ وہ کبھی  
آپ سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو خود کر سکتا ہو۔“ یہ ایک حقیقت  
ہے کہ ماتحت اسی وقت اچھا اور تسلی بخش کام کرتے ہیں جب کہ ان کا افسر خود اسی کام کو  
اچھا اور تسلی بخش کر کے دکھادے۔ دوسرے ساتھی اور ماتحت عمدہ مثالوں سے ہی کچھ  
سبق لیکے ہے۔ اسی لیے افسروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں باتفاق اصول زندگی بر  
کرنی چاہیے تاکہ ان کے ماتحت بھی باتفاق اصول نہیں۔

با اصول

میں ایک صنعتی ادارے کے ایک افسر سے واقف ہوں جو نہایت ہی بے اصول  
واقع ہوا تھا۔ وہ اپنے ضروری کاموں کے وقت بھی آفس میں بیٹھا اخبارات پڑھتا ہوا  
نظر آتا تھا اور دوپہر کے کھانے میں وہ کافی وقت لگا دیتا۔ صح کو بہت دیرے آپس پہنچتا  
اور شام کو جلد چھٹی کر کے گھر واپس چلا جاتا۔ وہ کبھی اپنے ماتخوں کے کاموں کی جائیج  
کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہ سمجھتا تھا اسے سورج سڑ میں حاضری لکھنے کی ضرورت

شمع بک ایجننسی  
.....میں نے جب اس کے جائزے کو کندھا دیا تو مجھے لیکا یہ کچھ فکر لاحق ہو گئی۔  
لیکن مرزا صاحب مجھے اب بھی ان شور نس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے  
پرانی ملاقات ہونے کی بنا پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا آپ ”ائیٹ ایکم“ کے سلسلے میں  
مجھے کوئی پالیسی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گا کہ شہر میں میری کافی بڑی  
جانکاری موجود ہے اور میں مکاتب اور دوکانیں کرائے پر چل رہی ہیں۔“

مرزا صاحب، اسی قسم کا یہ نس حاصل کرنے کے لیے گیارہ سال سے اس کا چیچھا  
کر رہے تھے۔ اور وہ اس روز اپنے مقصد میں آخر کار کامیاب ہو گئے۔  
ہنری جے پیسر نے کسی کام کے پیچھے مسلسل پڑے رہنے کو مقصد یا گول تک  
پہنچنے کا سب سے موثر ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے آپ خود اپنے تینیں یہ سوال  
کریں کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کا خواہش مند ہوں اور کیا حاصل کرنا  
چاہتا ہوں؟ آپ اپنی تمام ذاتی اور جسمانی قوتوں کو منظم کر کے پھر انہیں خود اپنے  
ڈھپ پر ڈال دیجئے۔ ہمیشہ اپنے مقصد یا گول پر نظر رکھیے اور اس تک پہنچنے کے لیے  
اپنی سرگرمیاں برابر جاری رکھئے۔ یہ مسلسل جدوجہد ہی آپ کو ایک دن اپنے گول سے  
قریب تر پہنچا دے گی اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے اور زندگی کی جانب آپ کا  
روزہ ہمیشہ فاتحانہ ہوتا چاہئے لیکن آپ کے اندر خود اعتمادی اس وقت پیدا ہو گئی ہے  
جب کہ آپ اپنی تمام صلاحیتوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوں۔ یعنی آپ خود  
جانختے ہوں۔ یعنی آپ خود کو جانتے ہوں۔ تب اعتمادی احساس کتری اور جذباتی کمکش  
کو زیادہ اکھرنے کا موقع نہیں دیتی۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کی خصیضت اثباتی  
قدروں کی حامل ہوتی ہے اور جن کی نکاہیں ہمیشہ اپنے مقصد یا گول پر لگی رہتی ہیں وہ  
اپنی مسلسل جدوجہد اور لگا کا تاریخت کی وجہ سے جلد یا دری ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔

### تحفظ کا چکر

وہ نوجوان جن کی عمر میں ابھی چالیس یا پینتالیس سال سے متباہز نہیں ہوئی ہیں۔

کامیابی کاراز  
68  
کی۔ ایسے سیکلوں تاریخی ریکارڈ موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے نہایت  
اہم خیالات پیدا ہوئے لیکن کسی نے انہیں عملی جاہدہ پہنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس قسم  
کے تیسری خیالات میں شارد ماغوں میں پیدا ہوتے ہیں اگر انہیں گہرے سے باندھ لیا  
جائے اور پھر ان کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے وہ کام کیا جائے تو کوئی وجہ  
نہیں کہ اس کا نتیجہ بہتر صورت میں برآمد نہ ہو۔

”میرے گھر کے قریب ہی ایک صاحب رہتے ہیں جو ان شور نس کے نہایت  
کامیابی سلسلے میں سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک مرد مجھے بتایا کہ ایک شخص کے پیچھے  
مسلسل گیارہ سال تک پڑے رہے اور آخرا کارے پالیسی پیچے میں کامیاب ہو گئے۔  
اس شخص کو زندگی کا یہ کرنے سے سخت چڑھتی۔ وہ اس کے بارے میں کسی سے گفتگو  
کرتا پسند نہ کرتا تھا اچانچ اس کے مزان سے بخوبی واقف ہو جانے کے بعد انہوں نے  
کبھی اس سے براہ راست ان شور نس کے موضوع پر کوئی بات چیز نہیں کی۔ اس کے  
برخلاف وہ اس کے ساتھ نہیں اور دوسرا کھلیل تھیت تھے اور اکثر اسے کھلیل میں  
ٹکست دے کر اشتغال دلا دیتے تھے لیکن جب دوبارہ کھلیل شروع ہونے لگا تھا تو وہ  
اس سے یہ کہہ کر رخصت ہو جاتے کہ ”افسوں“ اب میں یہاں پڑھنے نہیں سکتا اس وقت  
مجھے ایک ان شور نس پالیسی فروخت کر جاتا ہے۔“

”اگلے روز جب دوبارہ کوئی اس قسم کی صورت پیش آتی تو پھر وہ کہتے کہ ”کل  
ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جس کو میں نے ان شور نس کیا تھا اس کے بیوی بچوں کو اس کا علم نہ  
تھا لیکن میں نے جب انہیں جا کر اس بات کی اخلاقی اور انسانی قدرے سکون ہوا۔“  
وہ اس سے ہر دوسرے تیرے دن اس قسم کا کوئی واقعہ بیان کرتے رہتے تھے  
لیکن سالہاں سال گزرتے چلے گئے اور اس شخص کو کوئی شیخ میں نہ اتنا راجا سما کیا گیا جو سال  
تک مسلسل وہ اس شخص کے پیچھے پڑے رہے۔ آخر کار ایک دن ایسا آئی گیا جب ان  
کی یہ مستقل مراجی بارا دو ثابت ہوئی۔ اس نے خود انہیں اپنے پاس بولیا اور کہنے  
لگا۔ مرزا صاحب مل میرے ایک بہت پرانے اور عزیز دوست کا انتقال ہو۔“

شع ع بک ایجن سی  
71

جائیں۔ صرف زیادہ تجوہ پانے کی لائچ میں ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام میں لگنا جب کہ اس سے پوری طرح واقفیت بھی نہ ہو سخت نادالی ہے۔ میں نے ایک بے چین طبیعت کے نوجوان کو دیکھا کہ اس نے اپنے کام میں کوئی تجربہ یا مہارت حاصل کرنے کے باوجود اسے چھوڑ کر دوسرا کام اختیار کر لیا اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اسے چھوڑ کر تیرسا انتیار کیا جو بھی کام آپ اختیار کریں اس میں پوری طرح مہارت حاصل کر لیں تاکہ اگر اسے چھوڑ بھی دیں تو فی مہارت کی وجہ سے آپ دوسرا کام بھی جلد سمجھ سکیں!

اس کام کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایک نکتہ قابل توجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے موجودہ کام کی ایہیت کو کم سمجھ لیں۔ ایک ایسا کام جس میں آپ کو پوری مہارت اور تجربہ حاصل ہو وہ آپ کو دوسرا نفع بخش کام دلانے میں مدد گارثابت ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بات بیشتر یاد رکھیں کہ کوئی بھی مالک آئھیں بند کر کے آپ کی خدمات حاصل نہیں کرے گا۔ جب تک کہ وہ آپ سے بخوبی واقف نہیں ہو جاتا کہ آپ اس کا کام نہایت خلوص اور ایمانداری سے انجام دیں گے اور یہ کہ آپ اس کام میں پوری مہارت بھی رکھتے ہیں وہ آپ کو بھی اپنے کام پر نہیں لگا سکتا۔ جب آپ کو یہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ واقعی آپ اس کام میں کچھ تجربہ اور مہارت رکھتے ہیں۔ اسی وقت اپنی خدمات کی دوسری جگہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو موجودہ کام کی جگہ کم تجوہ لیتی ہے اور دوسری جگہ زیادہ طبقے کی امید ہے تو آپ اپنے طور پر یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس کام کے لیے موزوں بھی ہیں یا نہیں؟

آپ اس وقت تک اپنا موجودہ کام یا ملازمت تبدیل کرنے کی ہر گز کوشش نہ کریں جب تک کہ آپ کے اس اقدام سے کوئی مستقبل اور دیر پافائدہ نہ ہوتا ہو۔ تجوہ کے لحاظ سے بھی اور آپ کے مستقبل کے لیے بھی۔ کسی ملازمت کو اختیار کرنے سے قبل جب کہ آپ مستقبل طور کی دوسری جگہ کام کر رہے ہوں اس نئے کام کے متعلق پوری طرح معلومات حاصل کر لیں۔ آپ کو ایک ماہر سراغرسان کی طرح اس نئی جگہ کے بارے میں حسب ذیل باتوں کی اچھی طرح تحقیقات کر لئی چاہیے۔

شع ع بک ایجن سی

70

کامیابی کاراز

ایہیں تحفظ ملازمت یا مالی تحفظ وغیرہ کا خیال اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کیونکہ عمر کا بیکی وہ حصہ ہے جب ایک انسان زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ ایہیں وہ کاروباری ملازمتیں اختیار کرنی چاہیں، جن میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے امکانات زیادہ ہوں۔ امریکہ کے سابق صدر آرٹن ہارنے ایک مرتبہ نوجوان امیر واروں کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا کہ! اگر آپ تحفظات پسند انہیں کی کوئی بہترین مثال دیکھنے کے خواہش مند ہیں تو کسی میل یا قید خانے میں جا کر اس شخص کو دیکھ لیجے جو کسی عکین جرم کی بنا پر تاحیات قید کی سزا بھگت رہا ہے۔

جو لوگ تحفظات کے پچھر میں پڑ جانتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی میں کوئی خاص ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ تمام پاصلحیت مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ مالی تحفظات کی بنابر کوئی ملازمت ہرگز اختیار نہ کریں اور میں تو انہیں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ایسے افراد جن کی عمر زیادہ ہو جائیں جب بھی انہیں تحفظات وغیرہ کی زیادہ پروانہیں کرنی چاہیے کیونکہ تحفظات کا وزنی لکھر پھر انہیں آگے قدم بڑھانے کا موقع نہیں دے گا۔

### جلد بازی

کام پاپیش تبدیل کرنے کے چند اصول ہیں۔ اگر ان پر پا قاعدہ عمل کیا جائے تو اس صورت میں اگر کسی خسارے یا نقصان کا امکان باقی نہیں رہتا۔ بھی اپنی کوئی ملازمت غصہ کی حالت میں ہرگز نہ چھوڑیں۔

ایک شخص جو اس جگہ سے غصہ کی حالت میں کام چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ وہ بڑی قاش غلطی کرتا ہے اور اپنے آپ کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا لیتا ہے۔ ہاں اگر پہنچی خوشی اور دوستائی ماحول میں اس قسم کی علیحدگی ممکن ہو سکتے تو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔

آپ اس وقت تک اپنے موجودہ کام کو ہرگز نہ چھوڑیں جب تک کہ اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد آپ اپنی صلاحیتوں سے بھی بخوبی واقف نہ ہو۔

شمع بک ایجنسی  
جنوپی کام کر سکتی گے؟  
۱۔ اس ادارے یا کمپنی کا بس کس ذہنیت کا آدمی ہے؟ آپ اس کی مکراہٹ  
یا ظاہری اخلاق سے زیادہ متاثر نہ ہوں بلکہ جن لوگوں سے اکثر اس کا کاروباری  
سابقہ پڑھتا ہے ان سے اس کے متعلق تمام باتیں معلوم کریں یہ بات ہمیشہ یاد  
رکھے کہ ایک نئے بس کا انتخاب کرنا، ایک بیوی یا شورکے انتخاب کی طرح جدائی  
ہاڑک ملے ہے۔ جس طرح ایک نیا ایک تلاش کرتے وقت تمام پہلوؤں پر  
غور کرتے ہیں اسی طرح ایک نیا ایک تلاش کرتے وقت اس کے متعلق تمام ضروری  
باتیں جان لینا کی خاطر سے سودمند ہوں گی جب تک آپ اس نئی کمپنی کی سماں کی  
جانب سے مطمئن نہ ہو جائیں اپنی موجودہ ملازمت یا کام ہرگز نہ چھوڑیں۔  
ایک ایسا شخص جو محنت سے جی چاہتا ہے اور ہمیشہ آسان کاموں کی تلاش شیش  
رہتا ہے وہ اپنی زندگی میں بھی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکتا اسی لیے ایک مشہور امریکی  
ماہر فنیات ہبھری بی ڈی پوٹٹ اگر اپ آگے بڑھنا اور ترقی  
کرنا چاہجے ہیں تو کوئی مشکل کام تلاش کریں۔ زیادہ محنت اور مشقت سے ہرگز نہ  
گھبرا جائے۔ جن کاموں کی طرف لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں ان گر آپ ان کی جانب  
ماں ہوں تو آپ کو ترقی کا موقع بہت جلدی جائے گا۔  
۵۔ موجودہ دور میں ترقی کے بہت سے موقع موجود ہیں پس طیک آپ اپنے لئے  
کوئی مشکل کام منتخب کر لیں گے تو اس میں مقابلے کے انکا نات خاصے کم ہوں گے اور  
جلد آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا۔  
اس سلسلہ میں امریکی صنعتی کارخانوں کی کمپنی تیار کرنے والے سب سے  
بڑے ادارے کے صدر مورالیں کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سب سے  
پہلے ایک پیشکی حیثیت سے ٹریننگ حاصل کی تھی وہ خود اپنی زبان سے اپنے حالات  
یہاں کرتے ہوئے کہتے ہیں۔  
جبکہ میں ایک پیشتر تھا تو میں اپنے ”بائی“ کے ایک تجربے سے بہت زیادہ

- کامیابی کاراز ۷۲
- ۱۔ آیا وہ مالی خاتم سے محکم ہے یا نہیں؟  
۲۔ اگر وہ کاروباری ادارہ ہے تو اس کی سرگرمیاں کتنے حصوں میں تقسیم  
ہیں؟ موجودہ ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو فریض صرف ایک ہی چیز کا کاروبار  
کرتی ہیں وہ جلدی یا لوگوں کو جاتی ہیں۔  
۳۔ وہ ادارہ کیا کسی خاص خاندان کے نتیوالی میں ہے؟  
۴۔ اس ادارے کی انتظامیہ کی سیاست کس طرح کی ہے۔  
۵۔ اس دفتر میں کتنے افراد ایسے موجود ہیں جو اپنے کاموں میں مہارت کی وجہ  
سے نہیں بلکہ سفارش اور خوشامد کی بناء پر گے بڑھادیے گئے ہیں۔  
۶۔ اس کمپنی یا ادارے میں تعطیلات، اتفاقی رخصت اور سالانہ چھٹیوں کی کیا  
کیفیت ہے۔ کیا یہاں کی حالت میں دواعلاج کا خرچ وہ اٹھاتا ہے یا نہیں۔  
۷۔ سال میں کتنے یو اس میں ہیں؟  
۸۔ آیا کمپنی کے ملازم میں کوئی اس کا حصہ دار بنا لیا جاتا ہے؟  
۹۔ ملازم میں کی محنت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے اور کیا خاتمی تدبیر اقتدار کی  
جائی ہیں؟  
۱۰۔ ملازم میں کی اقامت کا کیا انتظام ہے؟ کو اڑالاٹ کے جاتے ہیں یا مکان  
کا پورا کرایہ دیا جاتا ہے۔  
۱۱۔ اگر تجوہ معلوم نہیں ہے تو اس کے بدالے میں دوسرو رعائیں کیا کیا ہیں؟  
۱۲۔ کیا آپ اس نئے کام میں واقعی دلچسپی لیتے ہیں؟ اور کیا آپ اسے موجودہ  
کام سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟  
۱۳۔ کمپنی یا اس ادارے کی جانب سے پچھل کی قائم کے لیے کیا انتظامات ہیں؟  
۱۴۔ تکمیل کو دو اوقتوں کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے؟  
۱۵۔ اس نئی جگہ جن سماجیوں سے آپ کا ساتھ پڑے گا کیا آپ انہیں پسز کرتے ہیں۔  
۱۶۔ جن سے افسروں سے آپ کا ساتھ پڑے گا کیا آپ ان کے ماتحت رہ کر



شعر بک اینجنسی  
رہائی ملے کا حق حاصل ہو گیا۔ ایک مرتبہ دران سفر میری ملاقات ایک اپنے خصس سے  
ہو گئی جو ایک بہت بڑا صنعت کار تھا لیکن وہ نہ تو اپنی زندگی میں کسی اسکول میں تعلیم  
حاصل کر سکتا تھا۔ مجھ سے جب ضبط نہ ہو سکا تو میں نے اس سے یہ سوال کر ہی لیا کہ  
آپ نے اتنے بڑے ضعفی کا رو بار کوں طرح فروغ دیا؟  
میرے اس سوال پر پہلے تو وہ مکرایا پھر اس نے بتانا شروع کیا! میں نے اپنی  
زندگی میں کئی طرح کے کام کیے ہیں اور جو بھی کام میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے بہتر  
میں زیادہ سے زیادہ محارت اور تجربہ حاصل کر سکوں۔ یوں تو سب ہی  
اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ محارت اور تجربہ کرتے ہیں لیکن میں ان سب سے بازی کے  
جانے کی زبردست خواہش اپنے اندر رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ میں اچھے موافق ہو گئی  
اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا جس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ موقع اچھا  
ہے تو میں اس سے بھر پور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا اور یوں پوری محنت اور تجربہ  
سے کام کر کے اپنے تصدیق حاصل کر لیتا تھا۔  
اچھے موافق تو ہے وقت ہمارے لیے منتظر ہے ہیں صرف دیکھنے والی آنکھیں  
اور چونکا داعی ہمیں ان کی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں۔ وہ ایک خوبصورت باغ  
میں گلاب کے پھولوں کی مانند ہیں۔ آپ اپنیں دیکھتے ہیں اور وقتی طور پر ان کی  
تریخیں بھی کرتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتے ہیں یا  
اگر آپ انہیں تو سکتے ہوں تو اپنے گھر پر لا کر خوبصورت گلدان کی زینت بنادیتے ہیں  
اور شام تک ان کو اپنے سامنے رکھ لطف اندوں ہوتے ہیں لیکن باغ میں دوسرے  
گلاب بھی تو کھلے ہوئے ہیں جن کی رنگینیوں سے آپ مطلقاً لطف اندوں نہیں ہوتے  
اور آپ کو ان کی خوبیوں کا احساس ہوتا ہے۔

کامیابی کاراں  
ایک اپاٹھن جو آئے دن طرح طرح کی مشکلات کا مقابلہ کرتا رہتا ہے وہ  
عموماً اچھے موافق کو اپنی ہی جانب مائل و راغب پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈیڑائیں  
انجیسٹر برہان احمد بری کا واقعہ سن لیجئے۔  
انہوں نے فرش لوڑ کرنے کی غرض سے ایک خود کار آل تیار کرنے کے لیے جو  
ڈیڑائیں بڑی محنت سے بنا یا تھا اسے شروع میں تمام ماہرین نے بہت پسند کیا اور اس  
ڈیڑائیں کو منتفع طور پر مظہور بھی کر لیا گیا۔ لیکن جب وہ آلاس ڈیڑائیں کے مطابق بن کر  
آیا تو اس میں کئی غلطیاں اور خامیاں پائی گئیں۔ چنانچہ ان سے دوسرا ڈیڑائیں تیار  
کرنے کے لیے کہا۔ اس خود کار آل کے ایک حصے میں اسٹیلیس اسٹیل کی بجائے چینی  
پاچھر کا استعمال اس لیے نہایت ضروری ہو گیا تھا کہ اس ہزار ڈگری کی سخت آنچ میں فولاد  
ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔

برہان بری نے اس صورت حال سے ذرا بھی ہمت نہ ہاری اور دوسرا ڈیڑائیں  
تیار کرنے کا تجھیہ کر لیا۔ اس مرتبہ انہیں کئی غیر موقع مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر  
بھی وہ اپنے کام میں برابر لگے رہے اس مرتبہ انہوں نے جو ڈیڑائیں تیار کیا تھا اس کے  
مطابق جب وہ ہیئت آنکھ بن کر آیا تو اسے چھماہ تک آرماںی دور میں رکھا گیا اور وہ کمی خاطر  
سے نہایت مفید ثابت ہوا، اس کی وجہ سے کافی روپیہ اور انسانی محنت بچ جاتی تھی۔  
چنانچہ ان کی جانب سے پیش کے لیے درخواست دے دی گئی اور پھر برہان بری کی  
لیکن نے ایک دوسری بہت بڑی مشیری تیار کرنے والی فرم کو کشیدگاد میں اس خود  
کار آل کی تیاری گا اڑو دے دیا۔

برہان بری کے اس عزم و ہمت نے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ غیر موقع  
مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے انہیں دراصل اس نہری موقع کے  
رو برو لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کی سلسلہ محنت اور جانشناختی کا تجھیہ ہوا کہ ایک خطیر قم جس  
کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے ان کے ہاتھ آئی اور ایک موجود کی حیثیت سے ان کے نام کا  
شہر بھی ہو گیا۔ ان کی اس ایجاد سے کمپنی کو کمیر منافع ہوا اور انہیں بھی چچاں فیصلہ

### کامیابی کاراز

79

#### شمع بک ایجننسی

اور ذات پر ان کا اثر نمایاں ہوگا۔ ایک بار کسی نے ذیل کارنگکی سے پوچھا! ”آپ نے زندگی میں اب تک سب سے براستقون سائیکھا ہے۔ اس نے فروج اواب دیا! خیالات کی اہمیت۔“ اس کا کہنا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے آپ کیا

بچتے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ آپ کیا ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے خیالات ہمیں بناتے اور بگڑتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ہمیشہ ثابت خیالات کو جگدیں۔ یہاں اور پریشان کرنے خیالات ہمیں یہاں اور پریشان کر دیں گے، ان سے بچانہایا ضروری ہے۔ آپ اگر ذرا بھی شہنشہ دل سے سوچیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی غربت اور مفکسی کا تعلق ہے۔ اس سبب منفی خیالات ہیں۔ آپ صرف اس لیے غریب ہیں کہ آپ نے سب سے برا سبب منفی خیالات ہیں۔ ہمیں ایسا ہو جائے گا کہ آن ہی سے بچتے ہمیں طور پر اس حیثیت کو قبول کر لیا ہے اس سے بخاتصال کرنے کا آن ہی سے بچتے ارادہ کر لیجئے۔ کوئی وجہ نہیں کامیابی آپ کے قدم نہ چوکے۔ ممکن ہے ان طور کو پڑھ کر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ ایک شخص اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور سوچنا شروع کر دے۔ ”میں لکھ پتی بن گیا ہوں تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔“

تو میرے کہنے کا مطلب ہے اور نہ اس طرح دولت مند بن جاسکتا ہے۔

اپنے گرد و چین پر نظر ڈالنے اس کا نتیجہ کی ہر شے کسی نہ کسی اصول کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج اور زمین کچھ اصول کے پابند ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سب آپس میں ٹکرایا جاتے اور کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ پھر دیکھئے چہ ماں کے پیٹ میں مسلسل نو ماہ تک پرورش پاتا ہے پھر دنیا میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ پروان چڑھتا اور جوان ہوتا ہے۔ اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پچھے صرف ایک گھنٹہ پیٹ میں رہنے کے بعد پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ بات قانون نظرت کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ یقیناً زندہ نہ رہتا۔ اسی طرح جب آپ دولت کا نام کا کوئی منصوبہ سوچتے ہیں تو اس کی حیل کے لیے چند مرحلے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی دولت مند انسان کی مثال لے لیجئے، ہر ایک کو زندگی میں بے پناہ جدو جدد کرنی

#### شمع بک ایجننسی

78

### کامیابی کاراز

#### آپ غریب کیوں ہیں؟

دنیا میں ایسے لوگ کم نہیں جو اپنے آپ کو بد قسم، کمزور اور ناقلوں سمجھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ محض اس لیے کہ دنیا میں انہیں وہ سہولتیں اور آسانیں میسر نہیں ہوتیں جن سے دوسرا سے بہرہ ور ہیں۔ ان لوگوں کا بغور مشاہدہ کیجئے تو پچھے چل گا کہ وہ مختلف خدا ادھار صحتیں رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو ذہنی طور پر مفکس اور طلاش تصور کرتے ہیں۔ جب کہی کسی اچھی چیز یا سہولت کا ذکر آئے گا وہ یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیں گے یہ تو امیروں کے چونچے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق؟ اس طرز عمل کا تجھے یہ ہے کہ انسانی ذہن اور شعور آہستہ مایوسی اور قوتیت کا شکار ہو جاتا ہے یاد رکھیے، انسانی جسم میں دماغ کی حیثیت بالکل وہی ہے جو ایک ملک میں کسی سربراہ مملکت کی ہوتی ہے، ملک کے سربراہ کی طرح وہ جسم کے تمام معاملات پر نظر رکھتا اور انہیں کمزول کرتا ہے۔

ذیل کارنگکی نے کہا تھا! ”دماغ ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں انسان کی کامیابی اور ترقی کی تمام چیزیں ڈھلتی ہیں۔“ اسی طرح ایک اور ماہر نسبیات کا قول ہے! ”خیل ہماری بری روح کی قیمتی ہے۔ یہاں انسانی خواہشات اور جذبات عمل کی تکلیف اختیار کرتے ہیں۔“ ان اقوال سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ثابت خیالات کی حد تک ہماری کامیابی کے ضامن ہیں۔ جس طرح چھوٹے بچوں کو مختلف کاموں کے لیے تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے اسی طرح ذہن کو کوئی صحیح خطوط پر کام کرنے کی تربیت دینا ضروری ہے۔ ہمارے خیالات، ذہن کی آیا ری کرتے ہیں۔

دوسرا لفاظ میں یوں سمجھ لیجئے ہمارا ذہن بخبر زمین کی مانند ہے اور خیالات بچ کا کام کرتے ہیں۔ ہم اگر زمین میں گندم بوسیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے۔ تھیک اسی حجہ میں ہے ذہن میں حصے برے بھلے خیالات کی پرورش کریں گے ہماری ثابتیت

کامیابی کاراز

80

شعع بک اینجنسی

بڑتی ہے تب کہیں جا کر اس مقام سک پہنچتا ہے۔ اس کے بر عکس آپ کو کوئی شخص ایسا  
ٹھیں ملے گا جو آنکھیں بند کر کے صرف سوچتا رہا ہو اور اس کے سامنے دولت کا ذہیر  
لگ گیا ہو۔ ثبت خالات کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر کام کی تحریک، جوش و  
خروش اور جذبہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ پوری خود اعتمادی سے جدوجہد کرے اور چند  
ضروری مراحل طے کرنے کے بعد اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائے۔ اپنی بات  
 واضح کرنے کے لیے میں اندر یو کارٹنگ کی مثال پیش کروں گا۔ وہ کسی زمانے میں  
ایک معقول مزدور تھا لیکن آج اس کا شارد دنیا کے امیر لوگوں میں ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کا خیال، خواہش، جتوں میں بدل جائے تو اس کا  
صرف ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے مقصد کو سب سے پہلے واضح الفاظ میں کسی  
کاغذ پر لکھ لے اور پھر دن میں کم از کم دس بار اس کو بلند آواز سے پڑھے۔ بار بار  
پڑھنے سے وہ مقصد ذہن پر گویا نقش ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اس بات کا روشناروئے  
ہیں کہ زندگی میں کبھی اچھے موقع نہیں ملے۔ میں ان سے کہوں گا بڑے لوگوں کی  
زندگی پر ایک نظر ڈالیں اُنہیں موقع آسمان سے حاصل نہیں ہونے بلکہ انہوں نے اپنی  
ہمت، جرأت، اور خود اعتمادی سے پیدا کئے اور پھر ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ آپ  
بھی اگر دنیا میں ترقی اور کامیابی کے خواہاں ہیں تو اُنھیں اور اپنی خواہش کو پایہ تھجیل تک  
پہنچانے کے لیے کمر کس لیجئے۔ خدا آپ کا ساتھ دے گا۔ کامیابی کے موقع خود بخود  
پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔